


# اعلیٰ حضرت کی تاریخ گوئی

عبدالحکیم خان اختر شاہجہان پوری



*http://t.me/Tehqiqat*

<https://ataunnabi.blogspot.com/>

<http://t.me/Tehqiqat>

اعلیٰ حضرت



تابخ کوئی

عبدالحکیم خاں اختر عفی عنہ مظہری

شاجہان پوری لاہور



غوثیہ بکڈ پوری میرید کے

# جملہ حقوق محفوظ

کتاب ————— اعلیٰ حضرت کی تاریخ گوئی

مصنف ————— عبدالحکیم خاں اختر شاہ جہان پوری

ہدف ریڈنگ ————— حافظ ابوسفیان

کپوزنگ ————— چاڑی پر مارٹ ستا ہو ٹل در بارڈ کیٹ

کپوزر محمد ظفر اقبال مدثراعون (کیلان)

ناشر ————— غوثیہ بکڈپور میرید کے

اشاعت ————— اکتوبر 1999ء

## ملنے کے پتے

☆ مکتبہ حامدیہ حجنج عش روڈ لاہور

☆ فیاء القرآن حجنج عش روڈ لاہور

☆ مسلم کتابوی حجنج عش روڈ لاہور

☆ چاڑی پبلی کیشنز در بارڈ کیٹ لاہور

## انساب

احقر اپنی اس ناقابل ذکر کلوش کو اپنے مرشدی و مولائی، سیدی و سندی  
 حضرت شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۳۸۲ھ / ۱۹۶۴ء) مفتی اعظم  
 دہلی کے فرزند اکبر حضرت مولانا مفتی مظفر احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ  
 (المتوفی ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱ء) کی جانب منسوب کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں جو کچھ ہے اسی  
 عالی گمراہی کی بھیک ہے۔

ہوتا رہے اختر کا اسی در سے گزارا  
 شاہیں چہ عجب گر بنوازند گدارا

اختر شاہ جہاں پوری مظہری عفی عنہ

<https://ataunnabi.blogspot.com/>

<http://t.me/Tehqiqat>

## حرف آغاز

امان علم و عرفان کے نیرتاں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ متحده ہندوستان کے مشور شر بریلی شریف میں جنگ آزادی ۱۸۵۷ء سے تقریباً ایک سال پہلے ۲۰ شوال المظہم ۱۲۷۲ھ مطابق ۱۳ جون ۱۸۵۶ء کو پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا اسم گرامی مولانا نقی علی خل بربیلوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰ء) ہے موصوف ایک جید عالم دین اور مذہب اہلسنت و جماعت کے پاسبان تھے۔ آپ کی تصانیف علیہ کے مطالعہ سے اہل ایمان کے دلوں کو آج بھی سرور اور آنکھوں کو نور حاصل ہوتا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمة کی ذات اسی متن کی شرح تھی۔

جد امجد مولانا رضا علی خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۸۲ھ / ۱۸۶۶) بھی جید عالم اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ ۳ نومولود مجدد ماہ حاضرہ پران کی خاص نظر کرم تھی۔ جب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیدائشی نام محمد اور تاریخی المختار رکھا گیا تو والدہ محترمہ امن میاں کما کرنیں اور جد امجد احمد رضا خان کے نام سے پکارا کرتے تھے، جس کے ساتھ آپ پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے جب قلم ہاتھ میں لیا تو اپنے نام سے پہا عبد المصطفیٰ لکھنے کا التزام رکھا۔ اپنا نام عبد المصطفیٰ احمد رضا خان لکھنے کے آپ پوری طرح مستحق بھی تھے کیونکہ برش گورنمنٹ کے اس پر فتن دور میں جبکہ کتنے ہی صاحبین جب و دستار بڑے پر اسرار طور طریقے پر عقیدہ توحید و رسالت کی اصلی صورت کے منع کر دینے پر تھے ہوئے تھے تو شیع رسالت کے اس پروانے اور سریلیہ طریقے کے اس نگہبان نے عقیدہ توحید و رسالت کی حفاظت میں وہ عدمیم المشل کا رسمہ انجام دیا کہ آپ کی کارکردگی علمائے اسلام کو ہمیشہ مشعل راہ کا کام

وئی رہے گی۔ گلشن مصطفیٰ کی پاسبانی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے آپ بُل بُلغ  
مدینہ بن کر اپنے قلبِ مفطر کو یوں تسکین دیا کرتے تھے۔

غم نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ

تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے ۲۔

امام احمد رضا خلیل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً پونے چورہ سمل کی عمر میں  
علوم عقلیہ و عقیلیہ کے اندر درجہ کمل حاصل کر لیا تھا اور ۱۳ شعبان ۱۲۸۶ھ کو سند  
فراغ حاصل کی، اسی مبارک روز سے فتویٰ نویسی کا آغاز ہو گیا تھا اور اس روز  
مسئلہ رضاعت کے متعلق ایک استفتاء کا آپ نے جواب تحریر فرمایا۔ فتویٰ نویسی کا  
سلسلہ اس مبارک روز سے آخری وقت تک متواتر ۵۳ چون سمل جاری رہا۔ آپ  
کے محیر العقول قلمی کارنائے کی وسعت، جامعیت اور بلند پروازی کو دیکھ کر یہ ماننا  
پڑتا ہے کہ امام احمد رضا خلیل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات شہنشاہ بغداد، غوث  
اعظم، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (الم توفی ۱۴۵۵ھ) کی کرامتوں میں سے  
ایک کرامت اور سرور کون و مکان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے  
معجزات میں سے ایک معجزہ تھی کیونکہ جبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے  
معجزات کا قیامت تک مختلف صورتوں میں اظہار ہوتا ہی رہے گا۔

فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی فہرست بہت مختصر ہے، اکثر علوم  
اپنے والد ماجد عیٰ سے حاصل کئے تھے۔ آپ کو پچاس سے زیادہ علوم و فنون پر  
دسترس حاصل تھیں اور ان میں آپ کی متعدد تصانیف موجود ہیں۔ ان میں سے  
بعض علوم میں آپ کو درجہ امامت حاصل تھا۔ کئی علوم ایسے ہیں جو آپ کے  
ساتھ عیٰ دفن ہو گئے اور ان میں کمل حاصل کرنا تو درکنار ان کی معمولی سوہب بوجہ  
رکھنے والا بھی آج دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا۔ حق یہ ہے کہ اس قدر علوم فنون  
کے حاصل کرنے اور ان میں اس درجہ کمل و استعد اوپردا کر لینے میں آپ کے

کب کو بہت کم دخل ہے اور حقیقت میں یہ فضل خداوندی اور عنایت مصطفوی  
متن علیہ السلام کی کر شمہ کاری ہے۔ ۳۔

امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۸۷۷ھ / ۱۲۹۲ھ میں اپنے والد  
ماجد کے ہمراہ حضرت شاہ آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ علیہ  
(المتوفی ۱۲۹۶ھ / ۱۸۷۹ء) کے دست حق پرست پر سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت  
کی۔ مرشد برحق صاحب بصیرت تھے اور انہوں نے آپ کی استعداد کو دیکھتے ہوئے<sup>http://Tehqiqat-e-Nabiy.com/Tehqiqat-e-Nabiy</sup>  
اسی موقع پر اجازت و خلافت سے بھی سرفراز فرمادیا۔ اس مرد حق آگاہ کو آپ کی  
ذات پر بردان خرقہ۔ ایک موقع پر تو آپ نے یہاں تک فرمادیا تھا کہ ان کے بیعت  
ہونے سے پہلے میں بہت مشکر تھا لیکن اب میری وہ پیشانی دور ہو گئی ہے۔ اب  
اگر میدان حشر میں باری تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آل رسول! دنیا سے میرے لئے کیا  
لائے ہو؟ تو میں عرض کر دوں گا کہ اے پور دگار! میں دنیا سے تیرے لئے احمد رضا  
لایا ہوں۔ ۴۔

۱۲۹۱ھ / ۱۸۷۸ء میں آپ نے اپنے والدین کریمین کے ساتھ حجج بیت  
اللہ کا فریضہ ادا کیا اور روضہ مطہرہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس موقع پر  
ایک روز آپ مقام ابراہیم میں بعد نماز مغرب نماز پڑھ رہے تھے، حرم شریف میں  
شافعی حضرات کی لامت کا فریضہ انجام دینے والے مولانا حسین بن صالح جمل  
اللیل رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۳۰۲ھ / ۱۸۸۳ء) نے جب آپ کو دیکھا تو بڑی  
شفقت سے پیش آئے اور بغیر کسی سابقہ تعارف کے آپ کو اپنے گھر لے گئے۔  
دریں تک آپ کی پیشانی کو تھامے رکھا اور بوسہ دے کر فرمایا۔ اُنی اجد نور اللہ

من هذا الجبين

(میں اس پیشانی میں اللہ کا نور پاتا ہوں)

اس کے بعد مولانا حسین بن صالح رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلسلہ عالیہ

قادریہ کی اجازت سے مشرف فرمایا اور صحابہ کی سند دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا  
 نام ضیاء الدین احمد ہے۔ اس سند میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ  
 (المتوفی ۲۵۶ھ / ۸۷۸ء) تک صرف گیارہ واسطے ہیں۔ موصوف کی ایک کتاب  
 الجوہرۃ المصنیۃ تھی جس میں شافعی مذهب کے مطابق مناسک حج بیان کئے تھے  
 آپ کی خواہش پر امام احمد رضا خاں برلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں اس کی  
 شرح النیرۃ والوضیہ فی شرح الجوہرۃ المصنیۃ کے نام سے  
 لکھی اور اس میں احناف کے مذهب کی وضاحت بھی کر دی گئی۔ جب یہ شرح  
 لے کر آپ شیخ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ملاحظہ فرمانے کے بعد وہ بت  
 خوش ہوئے لور ۲۳ تیس سالہ مصنف اعظم کو تحسین و آفرین کے ساتھ خوب  
 دعاوں سے نوازا۔

دوسری مرتبہ یہ سعادت آپ کو ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۵ء میں حاصل ہوئی۔ یہ سل  
 اس لحاظ سے بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ اس مبارک موقع پر حرمیں شریفین  
 کی مقدس سر زمین پر علمائے حرمیں طیبین کے ہاتھوں حق و باطل کا فیصلہ ہوا  
 تھا۔ اس موقع پر علمائے حرمیں نے آپ کی ایسی تعظیم و سعیرم کی جو بہت کم  
 بزرگوں کو میر آئی ہے۔ ان حضرات نے آپ کو علم و عرفان کا نیر تبلی پایا اس  
 لئے پکارا ہے کہ یہ تو مرجع علماء، امام زمانہ، اپنے وقت کے یگانہ اور اس صدی کے  
 برق مجدد ہیں۔ اس لئے ان حضرات نے آپ سے سندیں اور اجازتیں حاصل  
 کیں اور اسے اپنے لئے سرمایہ اختار تصور کیا۔

علمائے حرمیں طیبین نے اس موقع پر آپ کے فتویٰ المعتمد  
 المستند کی تائید و حملیت میں تقریظیں لکھیں جن کے مجموعے کا تاریخی  
 ہم حرم الحرمیں علی مخالک کفر والمیں ہے۔ ۲۰ ہے آپ نے علم غیب کے  
 بارے میں کتابوں کی مدد کے بغیر محض تائید ایزوی کے سارے سائزے آٹھ سخنے۔

میں ایک عظیم کتاب *الدولہ المحتیہ بالملادۃ الغیبۃ* کے تاریخی نام سے علی میں لکھی تھی۔ علمائے حرمٰن شریفین نے اس پر بھی دھوم دھام سے تقریبی طور پر لکھی تھیں۔ ۳ ایک مصنف مزاج جب ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو حق و باطل میں تمیز کرنا اس کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں رہ جاتا۔ دیے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم

اس زمانے میں نوٹ ایک نئی ایجاد تھی۔ مختلف علماء کی خدمت میں اس کی شرعی حیثیت معلوم کرنے کے لئے سوالات پیش ہوتے رہے تھے لیکن کسی عالم سے اس کی اصلی حقیقت کا تعین نہیں ہو سکا تھا کیونکہ قام ازل نے اس کے حل کرنے کا مبارک سر امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر سجا یا ہوا تھا۔ جب حرمٰن شریفین کی مقدس سرزین پر علم و عرفان کے اس مرد رخشان کا طلوع ہوا اور ان حضرات نے آپ کی وسیع النظری اور بلند پرواز کا نظارہ کیا تو بعض علمائے مکہ مکرمہ نے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نوٹ کے متعلق بارہ سوالات بطور استفتاء پیش کر دئے یعنی پیاسے کنوئیں پر آپنچے۔

امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو شنبہ کے روز ۲۳ محرم الحرام ۱۴۲۲ھ کو مکہ معظمہ کے اندر ان کے جواب سے فراغت پائی اور کتابوں کی مدد کے بغیر ایسا محققانہ جواب تحریر فرمایا کہ دنیاۓ اسلام کے اہل نظر دنگ رہ گئے۔ کتنے ہی اسلامی ممالک کے علماء نے نوٹ کے بارے میں اپنی تحقیق کا اظہار کیا تھا لیکن سب کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس نشانے پر اگر کسی کا تیر لگا ہے تو وہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ علامہ ابن عابدین شاہی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۸۳۶ھ / ۱۸۷۶ء) کی یاد اہل نظر کو بار بار ستاری تھی اور اس الجھن کے موقع درود نبیل حل سے یہی کہہ رہے تھے۔

ہو بھو کھنچے گا لیکن عشق کی تصویر کون  
اٹھ گیا ٹلوک ٹھن مارے گا دل پر تیر کون  
انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مجدد مائہ حاضرہ امام رحمہ رضا خل  
بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو علمی مشکلات کو سمجھانے میں علامہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ  
سے بھی وستق النظر واقع ہوئے ہیں۔ سما پوری دنیاۓ اسلام کے اندر نوٹ کے  
بارے میں امام احمد رضا خل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر عمل ہو رہا ہے۔  
کوئی اپنے اکابر کی ٹنگ دامنی و کوتہ نظری اور فاضل بریلوی کی اصابت رائے و  
وسعت نظر کو تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن جملہ موافقین و مخالفین کا عمل نوٹ کے  
سلسلے میں ٹلک رضا کی نگارشات پر ہے کیونکہ ان پر عمل کئے بغیر مخالفین کے لئے  
بھی اور کوئی چارہ کاری نہیں ہے اور وہ زبان سے اقرار کریں یا نہ کریں لیکن ان  
کے دل اس بات کو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ

فیقہ انظم اہل جمل احمد رضا تم ہو  
مقام فقه میں عرش آستن احمد رضا تم ہو

اب تک جو حضرات نوٹ کو ویثیقہ و مشل تسلیم بتاتے تھے، نوٹ کی  
خرید و فروخت برابر قیمت پر بھی مست نہیں مانتے تھے اور یہ عقد حوالہ کارانہ  
دکھاتے رہتے تھے بلکہ نوٹ کو کم یا زیادہ قیمت پر دنایا سود ٹھرا تے تھے۔  
اگرچہ ان کی بے بھاعتی کا اقرار نہ کیا جائے لیکن ایسے حضرات کی تحقیق پر کوئی ان  
کا بڑے سے بڑا معتقد اور انہیں فیقہ الفقہ بتانے والا بھی عمل کرتا ہوا نظر نہیں  
آئے۔ یہ صورت حل صاف صاف اعلان کر رہی ہے کہ اس صدی کے مجدد برحق  
یعنی امام احمد رضا خل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات جلیلہ سے کوئی موافق یا  
مخالف مستغثی نہیں ہے۔

فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوابات کے مجموعے کا تاریخی ہم کفل

الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراهم رکھا تھا۔ مولوی عبدالمحی صاحب لکھنؤی (المتوفی ۱۳۰۳ھ / ۱۸۸۶ء) نے نوٹ کے پارے میں تحقیق کرتے ہوئے جو ٹھوکریں کھائی تھیں ان کی جانب اشارے کر دئے تھے۔ ۳ (۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱ء) میں آپ نے اس رسائلے کا ضمیرہ کا سرافیہ الواہم فی ابدال قرطاس الدراهم کے تاریخی نام سے عربی میں لکھا اور اس کے اردو ترجمے کو الذیل المسوط لرسالہ النوط کے تاریخی لقب سے ملقب فرمایا۔ اس کا تاریخی نام نوٹ کے متعلق سب سائل بھی ہے۔ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس ذیلی رسائلے میں مولوی عبدالمحی صاحب لکھنؤی کے فتوے پر نوے اور مولیٰ رشید احمد صاحب گنگوی کی تحقیقات پر ایک سو بیس رو قائم فرمائے ہیں جن میں سے کسی ایک کو بھی آج تک ثابت نہیں کیا جاسکا ہے، اگر آپ کے اس فتوے کو بھی نگاہ الصاف سے دیکھ لیا جائے تو کوئی بھی محافظہ کتب حرم مولانا سید اسماعیل بن سید خلیل بھی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰ء) کی تصدیق کئے بغیر نہ رہ سکے گا جنہوں نے فرمایا تھا۔

والله اقول والحق اقول انه لو خدا کی قسم کھا کر کھتا ہوں اور رج کھتا راها ابوحنیفہ النعمان ہوں کہ اگر امام اعظم ابوحنیفہ اس کو لا قرت عینہ ولجعل دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں مؤلفہا عن جملہ الاصحاب اور اس کے مؤلف کو اپنے خاص شاگردوں میں شامل فرماتے۔

یہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پوری دنیا پر عظیمہ حسان ہے کہ آپ کے ذریعے نوٹ کی شرعی حیثیت کا واقعی تعین ہو گیا جس پوری دنیا کا عمل ہے، اس عظیم الشان کارنامے کا آپ کو خود بھی احساں یکن بوجود اس مزدحق آگہ نے ڈیگریں نہیں ماریں بلکہ یہ ایمان افراد اور قومیں تھے۔

## اتباع وضاحت فرمائی۔

وللہ الحمد با ایں ہمہ حامشانہ فقیر مجتهد ہے نہ آئے مجتدین کے ادنی غلاموں کا پاسنگ، ان کے خاک نعل کے برابر بھی منہ نہیں رکھتا، نہ معلو اللہ شرع الٹی میں اپنی عقل قاصر کے بھروسے پر کچھ برمھا سکتا ہے۔ اس فتوی اور ان دونوں رسولوں میں جو کچھ ہے جد المقل ہے یعنی ایک نواحی کی اپنی طاقت بھر کوش۔ اگر حق ہے تو محض میرے مولی پھر اس کے جبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے اور اسی کے وجہ کرم کے لئے حمد ہے اور اس کے فضل سے امید ہے کہ انشاء اللہ الکریم ضرور حق ہے۔ اس کے گھر کی برکات دلکشا اور اس کے جبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم جانفزا نے اپنے گدائے بے قدر پر یہ فیضان کے ہیں ورنہ کمال یہ عاجز اور کمال ذریثہ دن سے کم میں یہ رسالہ تصنیف کرو یا۔ پھر اس کے شرکر کم کے اکابر علمائے کرام نے اس درجہ اسے پسند فرمایا، یہ بفضلہ عزوجل سب آثار قبول ہیں اور اگر شاید یہاں علم الٹی میں کوئی دقیقہ ایسا ہے جس تک نہ میری نظر پہنچی نہ ان علمائے کرام بل اللہ الحرام کی، تو میں اپنے رب عزوجل کی طرف اثابت کرتا اور ہر مسئلہ میں اس پر اعتقاد رکھتا ہوں جو اس کے نزدیک حق ہے اور وہ کہتا ہوں جو میرے امام اعظم کے امام اعظم حضور سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا

فَإِنْ يَكُونُ صَوْبَا فَمِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ يَكُونُ خَطَأً فَمِنِي وَ  
مِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ أَوْرُسُولَهُ بِرَبِّنَانٍ

جھکتے ہیں سخن وقت کرم اور زیادہ

امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملت اسلامیہ پر اتنے احسانات ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ قدرت نے تجدید دین و ملت کا فریضہ جس کے پرداز کیا ہو در جسے چودھویں صدی میں سرمایہ ملت کا نگہبان بنایا ہو، اس کے احسانات بھلا

کون شمار کر سکتا ہے۔ آپ نے جبوں اور عماموں کے قدس میں پچھے ہوئے گمراہ گروں اور منصب افتو منڈ ارشاد پر فائز ہونے والے لصوص دین کی غیر اسلامی حرکتوں اور گمراہ گری کی پراسرار کارگزاریوں کا ۲۵ صفر ۱۴۳۰ھ یعنی آخری دم تک پوری طرح سد باب کیا۔ ہر پراسرار رہن دین و ایمان سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے تقریر و تحریر کے میدان سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر کے حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھیچ دیا تھا۔ مقدس شجر اسلام میں غیر اسلامی عقائد و نظریات کی قلمیں لگانے والے قدس ملب بد خواہوں کا عمر بھر محاسبہ کرتے رہے اور ایسے حضرات کے چروں پر پڑی ہوئی خوشمندانقاں کو تائید ایزدی و عطاۓ مصطفوی سے ہشاتے اور سب کو سر بازار ان کے منحوس چرے و کھاتے رہے تاکہ کوئی مسلم بے خبری میں ان کے پچھے لگ کر اپنی متاع دین و ایمان کو ضائع نہ کر جیسے۔

امام احمد رضا خل بیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف ایک ہزار کے لگ بھک ہیں جو پچاس سے زیادہ علوم و فنون پر مشتمل ہیں۔ ذیر نظر مقالہ فاضل بیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ گوئی سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر پڑھے میرے جیسا بے بضاعت اور علمی لحاظ سے فلاش انسان اس عظیم الشان ہستی کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھ سکتا کیونکہ یہ حقیری جیونٹی اس علم و عرفان کے بحر بیکراں کی وسعتوں کا اندازہ کس طرح کرے؟ اپنی بے مائیگی و تھی دامانی کے باوجود محض تائید ایزدی و عنایت مصطفوی کے بمردو سے پر قلم سنبھالا اور لکھنے بیٹھے گیا ہوں خداۓ ذوالمنان اے میرے لئے تو شہ آخرت و ذریعہ نجات بنائے۔ آمین یا الہ العلمین ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین

عبد الحکیم اختر عفی عنہ

## تاریخ گوئی کے عام نمونے

مجتهد مائہ حاضرہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ گوئی میں جتنا  
کمل حاصل تھا اس کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں  
تاریخیں کہی ہوں گی۔ اس حقیقت کے پوجو ہمیں اپنی اس کوتھی کا اعتراف بھی  
کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی کبھی ہوئی تمام تاریخوں کو منظر عام پر لانے کی ماضی میں کما  
حقہ کوشش نہیں کی گئی تھی۔ جو تاریخیں بعض مطبوعات میں ملتی ہیں ان کی  
نسبت یقیناً ایسی تاریخیں بہت زیادہ ہوں گی جنہیں ممکن ہے ضبط تحریر میں تو لایا گیا  
ہو لیکن منظر عام پر لانے کی کوشش نہیں کی گئی ہو گی۔

جمل غیر مطبوعہ تاریخوں تک احقر کے لئے رسائی ناممکن ہے وہی تمام  
مطبوعہ تاریخوں کا جمع کر لیتا بھی میرے جیسے گوشہ نشین انسان کے لئے بہت مشکل  
ہے۔ اس مختصر سے مقالے میں بطور نمونہ کچھ تاریخی ملے پیش کئے جاتے ہیں  
ہمکہ ایک جانب حوصلہ مند حضرات کو زیادہ سے زیادہ تاریخیں جمع کرنے کا شوق  
پیدا ہو اور دوسری جانب قارئین کرام کو یہ اندازہ کرنا آسان ہو جائے کہ اس  
صدی کے مجدد برحق کو فن تاریخ گوئی میں کس درجہ کمل حاصل تھا۔

(۱)

امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خاں  
بریلوی رحمۃ اللہ علیہ (المتومن ۷۲۹ھ / ۱۸۸۰ء) کی تاریخ ولادت کے آئندہ تاریخیں  
مادے نکالے تھے جو حسب ذیل ہیں۔

۱۔ جاء ولي نقى الشيش على الشان

۲۔ رضى الاعمال بھی المكان

۳۔ حواجا، محقق، الافتخار،

- ۳۔ شہاب المحققین الامانی
- ۴۔ قرفی بن ج الشرف
- ۵۔ بری من الخوق والکلف
- ۶۔ افضل سبق العلماء
- ۷۔ اقدام حذاق الکراما

(۲)

اپنے جد احمد مولانا رضا علی خل بربلوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۸۵ھ / ۱۸۶۵ء) کی قرآن کریم سے ایمان افروز تاریخ وفات نکلی جو واقعی اولیاء اللہ کا مقدر ہوتی ہے اور جو اللہ والوں کی اخروی زندگی کا وہ قابل رشک نقشہ ہے جو اللہ کے کلام مجzenظام نے کھینچا ہے۔ یجئے وہ قرآنی تاریخ پڑھئے اور لطف اٹھائیے۔

الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۲۔

(۳)

امام احمد رضا خل بربلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ۱۲۷۲ھ میں ہوئی تھی۔ سن شعور کو پہنچ تو آپ نے قرآن کریم سے اپنی ولادت کی تاریخ نکالی۔ تاریخ کیا نکلی بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ قدرت نے اس صدی کے مجدد برحق سے تاریخ پیدائش کے لئے وہ آیت لکھوائی جس کے کوزے میں آپ کے حالات و کملات کا سمندر نہایتیں مار رہا ہے۔ نگاہ بصیرت رکھنے والے حضرات اس قرآنی تاریخ کے ہر لفظ کے اندر چھپے ہوئے۔ بحر معانی میں غوطہ لگا کر سرمایہ ملت کے اس نگہبان کے حالات و کملات سے مطابقت کر کے فضل خداوندی اور عنایت مصطفوی کا نظارہ اپنی آنکھوں سے واقعات کی روشنی میں کریں۔ یجئے وہ ایمان افروز تاریخ یہ ہے۔

اولنک کتب فی قلوبهم الایمان و اینہم بروح منم

دل میں ایمان ثبت ہونے کا اس سے بڑا لور کیا ثبوت ہو گا کہ امام احمد خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو قدرت نے اس صدی میں ہدایت کا ایمانشنا بناؤ ریا کہ جن افراد، گھرانوں یا اداروں کو آپ سے علمی، اعتمادی و روحانی تعلق ہے وہ مذہب الہست و جماعت پر ثابت قدم لور جلوہ مستقیم پر گھرمن ہیں، لیکن جن افراد، گھرانوں یا اداروں کو آپ سے نسبت یا اصولی اتفاق نہیں وہ یا تو پورے طور پر بد نہبوں کی جھوٹی میں جاچکے ہیں یا سنی بھی رہے تو ایسے کہ

گدائے میکده ہوں ہر طرح کی ہے پہائے میں  
 رہی اس تاریخ کی تائید ایزدی ولی بات تو برلش گورنمنٹ کے پر فتن دور میں  
 جب جبوں اور عماموں کے مقدس میں چھپ کر کتنے ہی پراسرار لصوص دین نے  
 اپنا کام شروع کر رکھا تھا۔ مقدس شجر اسلام میں غیر اسلامی عقائد و نظریات کی  
 قلمیں لگا رہے تھے۔ اسلاف کی مقدس المانت اور اسلام کی اصلی تصور یعنی مذہب  
 مذہب الہست و جماعت کو تبدیل کرنے یعنی اسلام کا طیبہ مسخر کر دینے پر تھے  
 ہوئے تھے راہنمائی کے پردے میں رہنی، خیر خواہی کے لبؤے میں بد خواہی اور  
 اصلاح کی آڑ میں فلو برباکر رہے تھے تو وہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہی  
 مرد میدان ہے جو ان پراسرار مفسدین سے معركہ آراء ہوا اور ہر ایک کے چڑے  
 پر پڑی ہوئی خوشمندان قتاب کو نوج کر اس نے ایسے ہر بد خواہ کا بد نما چہرہ سر بازار سب  
 کو دکھا دیا۔ یہ آگے اپنا اپنا فیصلہ ہے کہ کوئی چاہے ان لصوص دین کو اسلام و  
 مسلمین کا بد خواہ تسلیم کرے اور چاہے اس بات پر ناراض ہو کر فاضل بریلوی رحمۃ  
 اللہ علیہ ہی کو مورد الزام نہ کرنے لگے کہ انہوں نے ہمارے فلاں بزرگ کی اسلام  
 دشمنی اور ملت فروٹی کاراز فاش کیوں کیا تھا؟ اس پر جو خیر خواہی و اصلاح کا خوشنا  
 پرده پڑا ہوا تھا اسے ہٹایا کیوں؟ ہمارے قبلہ و کعبہ کا منحوس چہرہ سے نقاب ہٹا کر

دوسروں کو دکھایا کیوں؟

بہر حال کوئی برا کئے یا بھلا لیکن بریلی کے اس مرد حق آگاہ نے یہ فریضہ ادا کیا اور یہ مقدس فریضہ ہر مجدد کو اپنے دور میں انجام دنا ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کرام کی نیابت کا وہ عظیم الشان منصب ہے جو ہر ایک کا حصہ نہیں۔ بہر حال چودھویں صدی میں تجدید دین و ملت کا سر اقدرت نے امام رضا احمد خلیل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک سر پر سجایا تھا اور آپ نے تائید ایزدی سے یہ فریضہ ایسا سر انجام دیا کہ لصوص دین میں سے کسی ایک کو علم و فضل کے تمام تر و علوی کے باوجود تقریر و تحریر کے میدان میں آپ کے سامنے ٹھہرنے کی جرات نہ رہی اور اس مرد میدان کے سامنے سے سب کو قلمی میدان چھوڑ کر اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا پڑا۔ یہ تائید ایزدی نہیں تو اور کیا ہے آپ کی ایک ہزار کے لگ بھگ تصانیف اس کارنالے کی صدیوں تک گواہی دیتی رہیں گی۔

(۲)

اس صدی کے مجدد برق نے ۱۲۸۶ھ میں جب عمر عزیز کی چودہ منزلیں طے کر لیں اور علوم عقليہ و نقلیہ میں کمل حاصل کر کے سند فراغ سے نوازے گئے اور اس نو عمری ہی میں سند افقاء پر جلوہ افروز ہو چکے تو اسی سال یعنی ۱۲۸۶ھ میں ایک شخص، نو عمر مجدد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ فلاں شخص نے امام باڑہ بنوایا ہے اور وہ اس کا تاریخی نام رکھنا چاہتے ہیں، کوئی اچھا ساتاریخی نام تجویز فرمائے۔

چودہ سالہ مجدد برق نے فوراً "جواب دیا کہ ان سے کہتے بد رفض اس کا نام رکھ لیں۔ نام میں رفض کے لفظ کی موجودگی پر سائل تملا یا اور پینتر ابدل کر کرنے لگا حضور اس کی تعمیر چونکہ پچھلے سال مکمل ہو چکی تھی اس لئے کوئی ایسا تاریخی نام ارشاد فرمائے جس سے ۱۲۸۵ھ برآمد ہو۔ امام الہفت نے بغیر کسی

ہائف یا غور و خوض کے بر جستہ فرمایا ”تو پھر ان سے کہئے کہ اس کا نام دار رفض رکھ لیں۔ وہ شخص حقیقت میں لفنا رفض کو تاریخی ملوے سے نکلوانا چاہتا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لئے پھر عرض گزار ہوا کہ حضور! اس کا سُنگ بنیاد ۱۴۸۲ھ میں رکھا یا تھا، لہذا تاریخی نام ایسا ہونا چاہئے جس سے سُنگ بنیاد رکھنے کے سال کا پڑھے۔ بریلی کے مرد حق آگاہ نے فوراً ”فرمایا کہ ایسا ہے تو اس کا نام در رفض رکھ لجئے۔ آخر وہ شخص خاموشی سے کھسک گیا۔

(۵)

آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خل بیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان افروز کتاب سور القلوب فی ذکر المحبوب ۱۴۸۸ھ میں مکمل ہو کر زیور طباعت سے آراستہ ہوئی۔ سولہ سالہ مجدد کے اس پر دو تاریخی قطعے شائع ہوئے، جن میں سے ایک فارسی اور دوسرا اردو میں ہے۔ ان قطعوں کی روشنی میں ہولہ سالہ مجدد کافی کمل ملاحظہ ہو۔

شہ چو مطبوع این کتاب عجیب  
بود در فکر سل طبع رضا  
تمہل داد بافش آواز  
ذکر حلوي چہ مرہم جانما  
دیگر

میرے والد نے جب کیا تصنیف  
یہ رسولہ بوصف شاہ حدی  
جس کا ہر صفحہ تختہ فردوس  
ہر درق برگ سدرہ و طویل

گیوئے حور، سوار حروف  
 مردم چشم حور، ہر نقطے  
 یا قلم اس کا ابر نیں ہے  
 ہر ورق اس کا علم کا دریا  
 ہر سطر رشک موج صاف ہے  
 دائروں کے صدف لکھوں تو بجا  
 نقطے جن کے ہیں گوہر شودر  
 قیمت ان کی ہے جنت الماوی  
 سل تلیف میں رضا نے کہا  
 وصف خلق رسول امی کیا۔

(۶)

امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد شیخ سید آل رسول مارہروی  
 رحمۃ اللہ علیہ کا ۱۲۹۶ھ میں وصال ہوا۔ آپ نے اپنے مرشد کامل کے وصال کی  
 مختلف تاریخیں کہیں، پہلے دو تاریخی ملے ملاحظہ ہوں۔

۱۔ تواریخ الاولیاء ۱۲۹۶ھ

۲۔ رضی اللہ عنہ والمحبوب ۱۲۹۶ھ

دیگر

خذلتاریخ فی التوشیخ نظما  
 یلوح کانہ البدر المنیر  
 وخذ من کل قطر مثل سطر  
 تکن ستا وس له نظیر

# ولی طاہر بہ امام وصول طیب بدر امیر دیگر

ذیل کے منع سے بھی سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی سولہ تاریخیں مستخرج ہوتی ہیں کیونکہ اس منع کی جتنی چالیں ہیں اتنی ہی تاریخیں نکل آئیں گی۔ ذرا فن تاریخ گوئی کا یہ کمل تو ملاحظہ ہو اور یہ بھی مد نظر رہے کہ تاریخ لکھنے والے نابغہ عصر و عبقری کی عمر صرف چوبیس سال ہے۔

## منع یہ ہے۔

اجود قرب	اصفیٰ عمل	واصل بر ب	حصہ نجی
۳۱۶	۳۲۱	۳۲۱	۳۲۸
اتقیٰ معا	آل رسول	اشبد بعد	جر کم
۳۲۲	۳۲۷	۳۲۷	۳۲۰
جان عرب	آن دیں دیں	اصفیٰ السن	زاد جل
۳۲۶	۳۲۹	۳۲۲	۳۱۸
افق العلی	نور نجی	شہ حدی	نکف نجی
۳۲۲	۳۱۹	۳۲۵	۳۲۰

(۷)

- ۱۴۹۷ھ میں سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ سید ابوالحسن احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۴۹۰ھ / ۱۳۲۲ھ) سجادہ نشین ہوئے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سجادہ نشینی کی یہ دو تاریخیں نکالیں۔
- ۱۔ مسیت بیت نجیبی ۱۴۹۷ھ
  - ۲۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اهل الْبَیْتِ اَنَّهُ حَمَدُ مُحَمَّدٍ ۱۴۹۷ھ

(۸)

امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کے پیران پیر، سید حمزہ مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کا ۱۹۸ھ میں وصال ہوا تھا۔ آپ نے غالباً ۱۲۹ھ میں قرآن کریم سے ان کے وصال کی یہ تاریخ نکالی تھی۔

ادخلی فی جنتی ص

(۹)

امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا نقی علی خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ۱۲۹۷ھ میں وصال ہوا تھا۔ مجدد مائہ حاضرہ قدس سرہ نے ان کے وصال کی متعدد تاریخیں نکالیں جو آپ کی فنی ممارت کی واضح شہادت دے رہی ہیں۔ یہاں نمونے کے طور پر صرف گیارہ تاریخیں پیش کی جاتی ہیں۔

- ۱۔ وادخلی فی جنتی و عبادی ۱۲۹۷ھ
- ۲۔ ان الذین یبَايِعُونَکَ انما یبَايِعُونَ اللَّهَ الْوَهَابَ ۱۲۹۷ھ
- ۳۔ کان نهایہ جمیع العظاماء ۱۲۹۷ھ
- ۴۔ خاتم اجلہ الفقہاء ۱۲۹۷ھ
- ۵۔ امین اللہ فی الارض ابدا ۱۲۹۷ھ
- ۶۔ ان موئہ العالم موته العالم ۱۲۹۷ھ
- ۷۔ وفات عالم الاسلام ثلمہ فی جمیع الانعام ۱۲۹۷ھ
- ۸۔ خلل فی باب العباد لا یندلی یوم القیام ۱۲۹۷ھ
- ۹۔ یاغفور ۱۲۹۷ھ
- ۱۰۔ کمل لہ ثوابک یوم النشورہ امنحہ ۱۲۹۷ھ
- ۱۱۔ جنه اعدت للمنتقین ۱۲۹۷ھ

(۱۰)

کتاب نگارستان لطافت ۱۳۰۲ھ میں تایف ہوئی جیسا کہ اس تاریخی نام سے خود عیاں ہے۔ فاضل برلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لئے دو تاریخی قطعے لکھے جو قارئین کرام کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔

یافت حسن حسن قسمیں از حسان در ذکر حسین  
گفت رضا تاریخ چنیں نعت اشرف قبلہ دین

(دیگر)

دل و جانم حسن حسن گفت و درست  
بہ سلک مدحت میلاد اقدس  
شنیدم نعمہ می زو بلبن خلد  
مبارک شادی نعت مقدس

(۱۱)

۱۳۱۰ھ میں آپ کے پیرو مرشد سید آل رسول مارہ روی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحزادی کا کمکرہ میں دبائی مرض سے انتقال ہو گیا۔ امام احمد رضا خلیل برلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک طویل تاریخی قطعہ لکھا ہے جس کے آخری چند اشعار پیش خدمت ہیں۔

من بنده رضا کہ خانہ زادم  
جوں گوش بسوئے دل نہادم  
محزون زغمش فسانہ میگفت  
دروے درے سال می سفت  
می درشت جلالیں سعادت

بم یافت بهم حج و شہادت  
دو رحمت فاطمہ برو حت  
روحے ملکی پر فتوحش  
فی الخلد تحسن الیها  
چوں گرش بسوئے دل نہادم  
رضوان واسعاً علیها

(۱۲)

مولانا محمد اسماعیل قادری نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ۱۳۱۷ھ میں وصال ہوا  
رسالہ مبارکہ فتوی الحرمین بر جن ندوۃ المیں کا سلسلہ تصنیف و طباعت ہے۔  
فضل برلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے وصال کی نو تاریخیں جسنوں کی صورت میں  
نکالیں۔ اس کے بعد دو قطعے لکھے پہلے قطعے کے ہر شعر سے تاریخ برآدم ہوتی ہے  
اور دوسرے قطعے کے ہر مصرع سے۔ جملہ تاریخیں ہیں جو قارئین کرام  
کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔

۱۔ حمد الله و صلوٰۃ علی محمد الحکیم ۱۳۱۷ھ

۲۔ رقعۃ التائیت ۱۳۱۷ھ

۳۔ حمام وفات العلّم البست ۱۳۱۷ھ

۴۔ الفاضل الکامل الحسن الجلیل ۱۳۱۷ھ

۵۔ المرض الاجل اسماعیل ۱۳۱۷ھ

۶۔ مھماجی الجل شذلی الحسب ۱۳۱۷ھ

۷۔ قادری القدر اجل الرتب ۱۳۱۷ھ

۸۔ افلدوا الودود علیہ احسانہ الجیسم ۱۳۱۷ھ

۹۔ والحق اسماعیل بخدمہ ابراہیم ۱۳۱۷ھ

## (قطعہ)

ا اسمعیل اسمعیل سنه احاماً حالت من کل فتنه  
 ا اسمعیل اسمعیل صدق ارادع کل مین عین فطنه  
 ا اسمعیل اسمعیل حق اتاک الحق نکب کل محنہ  
 لاسمیل عندالله ان شاء واحده بمکرمه و منه  
 لا لا یکین نعقل سعد اینقم رجع نفس مطمئنه  
 رواح الدوم من کنف لسني کزنه انجلى منها ابن مزنه  
 ستاه ونفعه باق بھيا ففطره دجنہ و قمیر رجنه  
 بزرگ الى جنان جنان عفو لانوار واطیار مرنه  
 يحف به ملکه اعزه باجنه کسب مرتعه  
 وان استل لاسمیل منهم احب تقه بنول الله الہ  
 لاسماعیل لاسمیل مدھا حلاه هجانه دخلاه هجنہ

## (دیکر)

ینمق فی تاریخ رحلته الرضا  
 سحاب میح السفع شواک بلت  
 بعد فی نعال فترواقفل منزل  
 واشرف نزل حزداد ذق تله  
 وقتلک مراقی اللطف کل کریبه  
 سقتک سواقی الوف ارج طله

(۳۲)

فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے برادر او سط مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ

علیہ (المتومنی ۱۳۲۶ھ / ۱۹۰۸ء) کا نقیہ کلام ذوق نعمت المعروف بہ صلہ آخرت کے تاریخی ہم سے ۱۳۲۶ھ میں زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ محمد مانیہ حاضرہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تاریخ طباعت کے دو قطعے لکھے۔ ہر تاریخ پورے مصروف سے برآمد ہوتی ہے۔ ان چودہ تاریخوں کی روشنی میں فتنی کمال دیکھا جا سکتا ہے۔

وقت بازوئے من سن بحدی فلن  
 حاج و زائر حسن سلمہ، ذوالمن  
 نعمت چہ رنگیں نوشت، شعر خوش آئیں نوشت  
 شعر گو دیں نوشت، دور زہر رب دخلن  
 شعرز شعرش عیاں، عرش بہ بیش نہیں  
 سیپ را حرز جل، بجدید را سر شکن  
 فلق فلق ایں تازہ جوش، پادہ بہنگام نوش  
 نور فشاند بگوش، شد پکال در دہن  
 لک رضا سل طبع، گفت بہ افضل طبع  
 زانکه ز اقوال طبع، لک بود نغمہ زن  
 اوج بیسیں محبت جلوہ کہ مرحت  
 عافیت عاقبت بلو نوائے حسن  
 بلو نوائے حسن، باب رضائے حسن  
 باب رضائے حسن، باز بہ جلب من  
 باز بہ جلب من بازوئے بخت قوی  
 بازوئے بخت قوی نیک حجاب لمحن  
 نیک حجاب محن، فضل غفو و س نیا

## فضل عنو بني، جبل دوي و جبل من (دیگر)

نعت حسن آمده نعت حسن  
کلک رضا باد بزین سلام  
ان من النوق لسحر بهم  
ان من الشعر لحکمه تمام  
کنک رضا داد چنان سال آں  
یافت قبول از شه یلس الانام

(۱۴)

مولانا ناصر الدین محمد شفیع صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ۱۳۲۶ھ میں  
انتقال ہوا۔ فاضل برلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سل وفات کی یاد تازہ رکھنے کی  
غرض سے یہ تاریخی شعر موزون فرمادیا۔

رفعت بیاد حبیب، گفت رضا سل نقل  
یاد محمد شفیع، بر محمد شفیع

(۱۵)

۱۳۲۶ کی بات ہے کہ علاقہ میوات میں دیوبندی مولویوں نے بڑا اودھم مچایا  
ہوا تھا میو حضرات کی جالت سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے دیوبندی مولوی جگہ  
جگہ علمائے اہل سنت پر تبرہ بازی کرتے اور مناظرے کا چیلنج دیتے رہتے تھے۔  
ریاست الور کے اندر مولانا شاہ محمد رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۹۵۵ھ /  
۱۴۹۳ء) بھی جلوہ افروز تھے۔ آپ علم و عرفان کی دولت سے ملامل لور اسلاف کی

## قدس نکلن تھے۔

ذکورہ صورت حل دیکھتے ہوئے مولانا رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا احمد حسین خاں رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بریلی شریف بھیجا تاکہ مجدد دین و ملت کسی سنسنی مناظر کو وہاں سے روانہ فرمائیں جو دیوبندی مذہب کی بے دینی کا راز طشت از بام کر دکھائے۔ چنانچہ جب وہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدعا بیان کیا تو امام اہل سنت نے مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۳۸۲ھ / ۱۹۶۴ء) کو طلب کیا اور فرمایا کہ علاقہ میوات، نواحی فیروز پور جھرکہ میں دیوبندی مولویوں سے جا کر مناظرہ کرو۔ انشاء اللہ تعالیٰ فتح یاب ہو کر لوٹو گے۔ فتح کی بشارت کے ساتھ آپ نے مولانا ظفر الدین علیہ الرحمہ کو مدینہ طیبہ کا ایک بیش قیمت اونی جبکہ بھی مرحمت فرمایا۔ یوں تو مولانا الباری کو اعلیٰ حضرت اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے لیکن اللہ والے کسی خاص موقع پر جب کسی کو تبرکات سے نوازتے ہیں تو وہ ایسا راز ہوتا ہے جس کے سمجھنے سے عقل ہمیشہ قاصر رہی ہے۔

جب مولانا ظفر الدین بہاری پہنچے تو مناظرے کے لئے کئی دیوبندی مولوی بچھرے ہوئے تھے۔ پہلے جو صاحب مناظرے کے لئے مقرر ہوئے وہ تین چار سال کے معظمہ میں قیام پذیر رہے تھے اس لئے اپنی عربی و اپنی پرانی میں بڑا ناز تھا۔ جس کے باعث مصروف رہے کہ مناظرہ عربی زبان میں ہو گا ان کی ناز برداری کے لئے یہ شرط مان لی گئی لیکن چند منٹ میں ان کی عربی و اپنی کا بھرم کھل گیا اور مجبوراً انہیں اعلان کرنا پڑا کہ اب مناظرہ اردو میں ہو گا۔ ابتدائی سوالات پر ہی ان کی علمیت کا طول د عرض بھی سب کو معلوم ہو گیا کہ مرسکوت لگ گئی اور جواب کے لئے منہ کھولنا دشوار ہو گیا۔ ٹالٹ اور حکم نے ان سے اور دوسرے علمائے دیوبند سے بار بار کہا کہ جواب دیجئے اور آئے دن جو بلبلے کی طرح ابھرتے اور چلسی دیتے

تھے وہ جوش دکھائیے۔ یہ کیسی جوانمردی ہے کہ ابتدائی سوالات پر ہی سارے دیوبندی مولوی جھاگ کی طرح نہ نہیں ہو سکئے اور کوئی ایک بھی بولنے کا ہم نہیں لیتا۔

متواتر تین گھنٹے جواب کا تقاضا رہا لیکن اوہر جو مر سکوت لگ چکی تھی اس نے کسی طرح بھی ٹوٹنے کا نام نہ لیا۔ آخر ہالٹ نے تین گھنٹے بعد اہل سنت و جماعت کی فتح اور دیوبندی حضرات کی نکست کا اعلان کرتے ہوئے کہ دیا کہ صاف واضح ہو گیا کہ مولانا شاہ رکن الدین، مولانا ارشاد علی، مولانا ظفر الدین لور مولانا احمد حسین خل خل وغیرہ علماء حق پر ہیں۔ اور دیوبندی علماء کا مذہب باطل ہے ورنہ یہ لا جواب نہ ہوتے۔

جب مولانا ظفر الدین بماری رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رضا خل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مناظرے کی ساری روئیدلو سنائی اور یہ بھی بتایا کہ میوات کے اہل سنت کی یہ خواہش ہے کہ اس مناظرے کی ساری کارروائی ایک رسالے کی شکل میں مرتب کی جائے اور اس کی طباعت کے جملہ مصارف وہ لوگ خود برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ مجدد برحق اس بات پر لور بھی خوش ہوئے اور فرمایا کہ اس رسالے کا تاریخی ہم  
یکے وہابیہ کا چپ مناظرہ

رکھنا۔ مولانا حسن رضا خل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۳۲۶ھ / ۱۹۰۸ء) نے اس کا تاریخی ہم نکست سفہت رکھا۔ چنانچہ ساری کارروائی کو ایک رسالے کی شکل میں جمع کیا گیا اور وہ رسالہ زیور طبع سے آرائتہ کر کے متعدد ہندوستان کے ہر گوئے میں بھیجا گیا۔ والحمد لله علی ذلکہ

(۲)

مولانا مفتی شفیع احمد خل قادری برکاتی رضوی بیسلپوری رحمۃ اللہ علیہ کا

۱۳۴۸ھ میں وصال ہوا۔ آپ رضوی دارالافاء کے امین اور بریلی شریف کے درسہ منظر اسلام میں مدرس تھے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ تاریخ وصال کی۔

تاریخ لکھی رضا نے فوراً

یا رب تیرا شفع احمد

(۱۷)

سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ۱۳۴۶ھ میں پنجشنبہ (جمرات) کے روز امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ جام سے خط بنوار ہے تھے اور میں قریب ہی سپاکی پر بیٹھا تھا۔ مولانا ظفر الدین قادری رضوی بہاری مدظلہ صدر مدرسہ علیہ سسرام کا خط بنام اعلیٰ حضرت آیا۔ حسب ارشاد میں نے پڑھ کر سنایا، خط میں ولادت فرزند کی بشارت کے ساتھ تاریخی تجویز فرمائے کی درخواست کی تھی۔ محمد برق رحمۃ اللہ علیہ نے سنتے ہی فرمایا کہ ہم تو مختار الدین ہونا چاہئے۔ پھر میری طرف مخالف ہو کر فرمایا۔ دیکھئے سید صاحب! اس نام میں تاریخ بھی ہو گئی ہے یا نہیں؟ میں نے دیکھا تو عدد ۱۳۴۶ھی نکلے۔

مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فرزند ارجمند بفضلہ تعالیٰ سیحت میں اور دینی و دنیاوی علوم سے ملا مل ہونے کے ساتھ علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی علی شاعری پر تحقیق کر رہے ہیں۔ صاحب علم ہونے کے ساتھ صاحب قلم بھی ہیں۔ شعروں سخن سے بھی لگاؤ ہے۔ اور آرزو تخلص کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کو ان سے بڑی توقعات ہیں۔ خدائے ذوالمسن انہیں مدقول زندہ سلامت رکھے آمین۔

(۱۸)

مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ شملہ جامع مسجد میں خطیب تھے۔ یہ

۱۳۲۹ھ کی بات ہے ان کے گھر سے خط آیا جس میں بڑی لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری مرقوم تھی۔ انہوں نے اس خط کو ایک عربی کے ساتھ بریلی شریف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج دیا اور تاریخی نام کے لئے عرض گزار ہوئے۔ بریلی شریف سے جواباً "خط گیا تو مبارک باد کے ساتھ پچی کے لئے دعائے خیر فرمائی گئی اور تاریخی نام زرینہ خاتون تجویز فرمادیا۔

۱۳۳۳ھ میں ان کے ہل دوسری صاحبزادی کی ولادت ہوئی تو مولانا بماری علیہ الرحمہ نے عظیم آبلو پنہ سے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بذریعہ عربی کے تاریخی نام کی درخواست بھیجی۔ آپ نے زبردستیات کے ساتھ تاریخی نام ولیہ خاتون تجویز فرمایا۔ ڈاکٹر مختار الدین آرزو کے بعد ۱۳۳۹ھ میں ان کے ہل تیسرا لڑکی تولد ہوئی تو سسرام سے مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی شریف اطلاع بھیجی اور تاریخی نام کے لئے گزارش کی۔ آپ نے ربیع خاتون تاریخی نام تجویز فرمایا۔ اس لحاظ سے حضرت مولانا ظفر الدین بماری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی خوش نصیب واقع ہوئے کہ ان کے اکثر بچوں کے نام اس صدی کے مجدد برحق امام احمد رضا خلیل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تجویز فرمودہ ہیں۔ ذالک فضل

الله یوتیہ من یشاء

(۱۹)

حضرت صدور الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبلوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى ۱۳۶۸ھ/۱۹۴۸ء) کے والد ماجد یعنی استاذ الشعر مولانا معین الدین نزہت مراد آبلوی علیہ الرحمہ کا بروز جمعۃ الوداع ۲۵ رمضان المبارک ۱۳۲۹ھ کو وصال ہوئا۔ جب مجدد مائہ حاضرہ امام احمد رضا خلیل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سانحہ جانکاہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فوراً "تعزیت کا خط ارسال کیا اور وصل کی دو تاریخیں تحریر فرمائیں دونوں تاریخیں ملاحظہ ہوں۔

## (تاریخ از قرآن مجید)

رُزق ریک خیر

(دیگر)

یک شلوت وفات در رمضان مرگ جمع شادت داشت  
 مرض تپ شدت سو میں بہرہ شادت خبر داشت  
 در مزار داشت جسم دا یعنی پئے دیدار یار منظر داشت  
 مرده ہر گز نہ معین الدین کہ ترا چوں نعیم دیں پھر داشت  
 از رضا سل بے سر اتمال قرب صدق ملیک مقدر داشت

(۲۰)

سید ایوب علی رضوی علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ امام احمد رضا خا برلنی رحمۃ اللہ علیہ پھائک میں جلوہ افروز تھے۔ گرداً گرد حاضرین و معتقدین کا کثیر مجمع تھا۔ ایک صاحب عرض گزار ہوئے کہ حضور! اسم اعظم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امامے ایسے سے ہر شخص کے لئے اسم اعظم علیحدہ ہے۔ اس کے بعد حاضرین پر ایک نگاہ ڈالی اور ایک جانب سے بتانا شروع کر دیا کہ تمہارا اسم اعظم یہ ہے اور تمہارا یہ سید ایوب علی رضوی علیہ الرحمہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا اسم اعظم اطیف ہے۔ لہذا تم یا الطیف یا اللہ کا ورد کیا کرو۔

اس کے بعد وضاحت فرمائی کہ ہر ایک کے نام میں جتنے حروف ہیں۔ ابجد کے قاعدے سے ان کے اعداد معلوم کر لئے جائیں۔ امامے ایسے میں سے جس اسم کے اعداد اس کے برابر ہوں وہی اس کا اسم اعظم ہے۔ اگر ایک اسم شریف میں مطابقت نہ ہو تو دو امامے ایسے کے اعداد برابر ہوں گے۔

اس کے بعد اسم اعظم کے پڑھنے کی ترکیب ارشاد فرمائی کہ اپنے ہم کے انداد سے دو گنی مرتبہ روزانہ اسماے ایہ سے اپنے اسم اعظم کا ورد کرنا چاہئے۔ مثلاً ایوب علی کے عدد ۱۳۹ ہیں۔ اور لطیف کے بھی ۱۳۹ پس اس اسم مبارک کو روزانہ ۲۵۸ مرتبہ پڑھنا چاہئے۔ سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسی وقت سے اس اسم مبارک کو روزانہ بلانچہ ۲۵۸ بار پڑھنا میرا معمول ہو گیا ہے۔

جب فاضل برلوی رحمۃ اللہ علیہ حاضرین میں سے ہر شخص کو اس کا اسم اعظم بے ٹکف بتا رہے تھے تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ سید ایوب علی رضوی جیسے محب صادق کے چھوٹے بھائی سید قناعت علی رضوی بلقی رہ گئے تھے کہ عصر کی اذان شروع ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں معمول تھا کہ اذان کے وقت سلسلہ کلام بالکل بند رہتا تھا اور بعد اذان ہر شخص نماز کے لئے اٹھ کر کھڑا ہوتا تھا۔ سید قناعت علی صاحب کو اپنا اسم اعظم معلوم نہ ہونے اور اس بارگاہ سے پہلی مرتبہ محروم رہ جانے کا بڑا افسوس اور صدمہ تھا۔

عصر کی نماز ہو گئی اور سید قناعت علی صاحب کو اپنی محرومی کاغم تگ کرنے لگا۔ مغرب کی اذان ہو گئی اور کمبر تجیر کرنے لگا تو آپ مسجد کی شملی فصیل سے مصلی کی جانب پلے پڑے۔ آپ نے مصلی پر پہلے دیاں قدم رکھا اور حسی علی الفلاح پر سارے نمازی صفو بستے کھڑے ہو گئے۔ تجیر تحریک سے پہلے آپ سید قناعت علی صاحب کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا سید صاحب! آپ کا اسم اعظم یا خلق یا اللہ ہے۔

(۲۱)

۱۳۹ھ میں مولانا ظفر الدین بماری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر لڑکی پیدا ہوئی۔ بریلی شریف اطلاع دیتے ہوئے تاریخی ہم کے لئے عرض گزار ہوئے۔ امام احمد رضا خاں برلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ربیع خاتون ہم تجویز فرمایا جس کا قبل ازیں نمبر

--

۱۸ کے تحت ذکر ہو چکا ہے لیکن یہاں مجدد مائہ حاضرہ قدس سرہ کے لفظوں میں اس تجویز کی وجہ ملاحظہ ہو۔

”خط طایہ نعمت تازہ مبارک ہو۔ اس کا نام وہ رکھئے کہ ہندوستان میں کسی عورت کو نصیب نہ ہوا یعنی حضرت ربیع معوز النصاریہ“ صوابیہ بنت صحابی علیہما الرضوان کے نام پر ربیع خاتون۔ ۲

(۲۲)

۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء میں قاضی فضل احمد صاحب لدھیانوی نقشبندی حستہ اللہ علیہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بریلی شریف حاضر ہوئے وہ اپنی کتب مسلطب انوار آنکہ صداقت پر اعلیٰ حضرت سے تقریظ لکھوانا چاہتے تھے۔ مجدد مائہ حاضرہ قدس سرہ نے فرمایا کہ پوری کتاب من کر پھر تقریظ لکھی جائے گی اس لئے قاضی صاحب موصوف کو ایک مدت تک بریلی شریف ٹھہرنا اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا مہمان بننے کی سعادت میر آگئی۔ ۲۱ صفر المظفر کو انہوں نے مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک استثناء پیش کیا کہ کسی دشمن صحابہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آئیہ کریمہ ان من المجرمین منتقیمون کے اعداد بخلاف جمل بارہ سو دو ہیں اور یہی عدد ہیں ابو بکر، عمر اور عثمان کے اس کی بناء پر وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دشمن کہتا ہے کہ یہ تینوں حضرات از روئے قرآن مجید مجرم ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ بدله لے گا۔ قاضی صاحب نے حضرت امام اہل سنت سے اس مطابقت کا حل دریافت کیا اس کے جواب میں جو کچھ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ دیدنی ہے۔

## الجواب

روافض لعنة الله کی بنائے مذہب ایسے ہی دوہام بے سروپا و پادر ہوا پر ہے۔

**لولا**"۔ ہر آیت عذاب کے عد اہم اخیار سے مطابق کر سکتے ہیں اور ہر آیت ثواب کے اہم کفار سے کہ اہم میں وسعت دیکھ ہے۔

**عائیا**"۔ امیر المؤمنین مولیٰ علیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے تین صاحبزادوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان ہیں۔ رافضی نے آیت کو ادھر پھرا کوئی ناصیح ادھر پھیر دے گا اور دونوں طعون ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر حضور اندرس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا: اروپی اپنی ماذا سمیت مومہ میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا ہم رکھا ہے؟ مولیٰ علیٰ نے عرض کی حرب فرمایا نہیں بلکہ وہ حسن ہے۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر تشریف لے گئے اور فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ تم نے اس کیا ہم رکھا ہے؟ مولا علیٰ نے عذر کی حرب فرمایا نہیں بلکہ وہ حسین ہے۔ پھر امام حسن کی ولادت پر فرمایا۔ حضرت علیٰ نے وہی عرض کی فرمایا نہیں بلکہ وہ محسن ہے۔ پھر فرمایا میں نے اپنے بیٹوں کے نام داؤد علیہ السلام کے بیٹوں پر رکھے۔ شبر، شبیر، مبشر، حسن، حسین، محسن ان سے ہم وزن و ہم معنی اس سے حضرت مولیٰ علیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اسرمَ و تنبیہہ ہوتی کہ اولاد کے نام اخیار کے ناموں پر رکھنے چاہئیں۔ لہذا ان کے بعد اپنے صاحبزادوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان غنی (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) وغیرہم رکھے۔

**هالا**"۔ رافضی نے اعد او خلط بتائے امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک میں الف نہیں لکھا جاتا۔ تو عدد بارہ سو ایک ہیں نہ کہ دو ہیں اور رافضی! ۱۔ بارہ سو دو عدد کا ہے کے ہیں! بن سب رافضی کے ۲۔ ہیں اور رافضی! اللہ عزوجل فرماتا ہے ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعاً على ست من هم في شبيه

اولاً ”بِهِ هر آیت عذاب کے عدو اسائے اخیار سے مطابق کر سکتے ہیں اور ہر آیت ثواب کے اسائے کفار سے کہ اسماء میں وسعت وسیع ہے۔

ثانیا ”بِهِ امیر المؤمنین مولیٰ علیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے تین صاحبزادوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان ہیں۔ رافضی نے آیت کو ادھر پھیرا کوئی ناصیح اور پھیر دے گا اور دونوں ملعون ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا: لرونی ابنی ماذا سمیتموہ میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ مولیٰ علی نے عرض کی حرب فرمایا نہیں بلکہ وہ حسن ہے۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر تشریف لے گئے اور فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ تم نے اس کیا نام رکھا ہے؟ مولا علی نے عرض کی حرب فرمایا نہیں بلکہ وہ حسین ہے۔ پھر امام حسن کی ولادت پر وہی فرمایا۔ حضرت علی نے وہی عرض کی فرمایا نہیں بلکہ وہ محسن ہے۔ پھر فرمایا میں نے اپنے بیٹوں کے نام داؤد علیہ السلام کے بیٹوں پر رکھے۔ شبر، شبیر، بہر، حسن، حسین، محسن ان سے ہم وزن و ہم معنی اس سے حضرت مولیٰ علیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو تنیہہ ہوئی کہ اولاد کے نام اخیار کے ناموں پر رکھنے چاہئیں۔ لہذا ان کے بعد اپنے صاحبزادوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان غنی (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) وغیرہم رکھے۔

ثالثاً ”بِهِ رافضی نے اعداد و غلط بتائے امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک میں الف نہیں لکھا جاتا۔ تو عدد بارہ سو ایک ہیں نہ کہ دو ہل اور رافضی!۔ بارہ سو دو عدد کا ہے کے ہیں اب سب رافضہ کے ۲۔ ہل اور رافضی! اللہ عزوجل فرماتا ہے۔ ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيئاً عالست منهم في شيء

بے شک جنہوں نے اپنا دین نکرے کر دیا اور شیعہ ہو گئے، اے نبی یا تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں۔ اس آئیہ کریمہ کے عدد ۲۸۲۸ ہیں اور یہی عدد ہیں روافض اثنا عشرہ شیطیہ اسماعیلیہ کے اور اگر اپنی طرح اسماعیلیہ میں الف چاہئے تو یہی عدد ہیں۔ روافض اثنا عشرہ فرقہ و اسماعیلیہ کے

۳۔ نہیں اور رافضی! بلکہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے۔ اولئکہ هم الصدیقون والشہداء عندریہم لہم اجرہم۔ وہی اپنے رب کے ہیں صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے ان کا ثواب ہے۔ اس کے عدد ۴۳۵ ہیں اور یہی عدد ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے۔

۴۔ نہیں اور رافضی! بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اولئکہ هم الصدیقون والشہداء عندریہم لہم اجرہم و نورہم۔ وہی اپنے رب کے حضور صدیق و شہید ہیں اور ان کے لئے ہے ان کا ثواب اور ان کا نور۔ اس کے عدد ۱۵۷ ہیں اور یہی عدد ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، علیہ، زبر، و سعد رضوان اللہ علیہم اجمعین کے۔

۵۔ نہیں اور رافضی! بلکہ اللہ عزوجل فرماتا ہے۔ والذین امنوا بالله و رسّلہ اولئکہ هم الصدیقون عندریہم لہم اجرہم و نورہم  
جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق و شہید ہیں۔ ان کے لئے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے۔ اس آئیہ کریمہ کے عدد تین ہزار سولہ ہیں اور یہی عدد ہیں۔ صدیق قاروق، ذوالنورین، علی، علیہ، زبر، سعید، ابو عبیدہ، عبدالرحمن بن عوف کے۔

الحمد للہ آئیہ کریمہ کا تمام و کامل جملہ صحیح بھی پورا ہو گیا اور حضرات عشرہ بشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اہمیت طیبہ بھی سب آگئے، جس میں اصلاً تکلف اور تضع کو دخل نہیں۔ کچھ روزوں (دنوں) سے آنکھ دکھتی ہے۔ یہ تمام آیات

نگہبان تھے۔ مجدد حقیقت میں انبیاء کرام کا سچا وارث اور نائب ہوتا ہے اور اپنے دور میں تائید ایزدی سے اعلائے کلمہ الحق کا عدم الشال فریضہ انجام دلتا ہے لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس لئے وہ کام نبی کی طرح پورے عزم و استقلال سے کرتا ہے۔ لیکن مجدد کملاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کی انتہائی بلندی کا اظہار ہے کہ آپ کے غلام بھی ایسے محیر العقول کارنائے سرانجام دیتے ہیں۔ اس مرد رخشی کی کرنوں میں اتنی تباہی ہے کہ ان کے کارہمین کو دیکھ کر نبی ہونے کا گمان گزرتا ہے۔ حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے بلکہ جیسے پور دگار کے پچے غلام اور امت محمدیہ شہید کے امام ہوتے ہیں۔

ہدوں حضرات کو دنیا میں انبیاء کرام کی طرح بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا جاتا تھا۔ وہ ہر قسم کی مشکلات کے باوجود شمع ہدایت، فروزانہ ہنکھ سکیں۔ بے دنی کی خواہ کتنی ہی آندھیاں آئیں۔ جب وہ استبداد، خواہ کتنے ہی جھکڑ چلیں لیکن یہ بزرگ اپنے اپنے عمد میں تائید ایزدی سے پوری پا مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور چراغ ہدایت کو بخوبی نہیں دیتے۔ اس چراغ کی ضرورت کا ہر سامان فراہم کر کے اس کی تبلیغ و تابندگی کو اصلی حالت پر لے آتے ہیں۔

چونکہ یہ حضرات عمر بھر انبیاء کرام کی طرح خدمت دین میں کافریہ ادا کرتے ہیں اس لئے جب اپنے فرض سے بخیرو خوبی فارغ ہو جاتے ہیں تو عظیم کام پر عظیم اجرت سے نوازے جاتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کا سلسلہ ختم ہوتے ہی رحمت خدالوندی کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اور خدائے ذوالمسن کی طرف سے اپنے حبیب علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے صدقے ہر قسم کے آرام و راحت سے نوازے جاتے ہیں۔ تاریخ دصل کے مذکور قرآنی جملے میں بھی ایسے ہی انعامات ائمہ کا ذکر ہے۔ جن سے ان کے خاص بندے علیٰ قدر مراتب نوازے جائیں گے۔ مجدد مائہ حاضرہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش

عذاب و اسلئے اشرار و آیات مرح و اسلائے اخیار کے عدد محض خیال میں مطابق  
کئے، جن میں صرف چند چند صرف ہوئے اگر لکھ کر اعداد جوڑے جاتے تو  
مطابقتوں کی بمار نظر آتی مگر بعونہ تعالیٰ اس قدر بھی کافی ہے۔  
والله تعالیٰ اعلم فقر احمد رضا عفی عن

امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب کے بارے میں قاضی  
فضل احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تاثرات یہ ہیں۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ شیعہ رافضی کتو ماشاء اللہ دلیہ نہیں بلکہ قیمہ  
ہو گیا۔ اب مجال دم زدن نہیں۔ فقیر نے یہ کرامت اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت  
محمد و مائہ حاضرہ، امام اہل سنت و جماعت کی پیش خود ملاحظہ کی کہ چند لمحوں میں  
ان تمام آیات اور اعداد کی مطابقت زبان فیض و السام ترجمان سے فرمائی۔ یہ رات  
کا وقت تھا۔ قریب نصف کے گزر چکی تھی۔ واللہ باللہ۔ اعداد اخیار و اشرار کے بلا  
سوپے اور تامل کئے فرمادے کہ فقیر سوائے اس کے لور اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ  
اعلیٰ حضرت کی کرامت کا اظہار بذریعہ القاء ریلنی اور الہام بھلانی تھا۔

(۲۳)

امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصل سے "تقرباً" پانچ میئنے  
پہلے رمضان المبارک ۱۳۲۹ھ میں بحوالی پہاڑ پر قرآن کریم سے اپنے وصل کی  
تاریخ یہ نکالی تھی۔

**وِرْطَافٌ عَلَيْهِمْ بِأَنِيهِ مِنْ فَضْهُ وَأَكْوَابٌ**  
یہ شرف اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو حاصل ہو گا کہ غلام چاندی کے برتن  
اور آنحضرت لے کر ان کے گرد خدمت گزاری میں پھرتے رہیں گے۔ امام احمد  
رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں ہے  
کیونکہ آپ چودھویں صدی کے برحق مجدد اور اپنے دور میں سرمدیہ ملت کے

کرنے کی غرض سے ہم بھی ان کے لئے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض گزار ہیں۔  
اب رحمت ان کے مرقد پر گمراہی کرے  
حشر میں شلن کریں ناز برداری کرے۔

# تصانیف کے حیرت انگیز تاریخی نام

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مجددین و ملت، امام احمد رضا خلیل برلوی رحمۃ اللہ علیہ کو علم کی دولت سے بڑی فیاضی کے ساتھ نوازا تھا۔ آپ تقریباً پچاس علوم و فنون میں یکتاںے دہر اور سرمایہ روزگار تھے۔ کئی ایک علوم کے تو موجد ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے۔ کچھ علم ایسے بھی ہیں جو آپ کے ساتھ ہی دفن ہو گئے۔ اور ان میں کسی کا ماہر ہونا تو دور کی بات ہے ان کی اولیٰ واقفیت رکھنے والا بھی آج کوئی نظر نہیں آتا۔ غرضیکہ آپ ایسے جامع اور وسیع النظر تھے کہ آپ کی نظیر گزشتہ صدیوں ہی میں نظر آئے گی۔

امام احمد رضا خلیل برلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف پچاس علوم و فنون پر مشتمل ہیں اور ان کا شمار ایک ہزار کے لگ بھگ ہے۔ ان میں سے شاید ہی کوئی علم و فن ایسا ہو جس میں آپ نے متعدد تصانیف نہ چھوڑی ہوں۔ تصانیف کی کثرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو امت محمدیہ میں سے شاید ہی کوئی بزرگ آپ کا مد مقابل ہو۔

فضل برلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ تصانیف میں سب سے ضخیم اور معركہ الرله فتاویٰ رضویہ شریف ہے۔ یہ بارہ ضخیم جلدیں میں جمازی سائز کے تقریباً چودہ ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ جمیع کتب فقہ حنفیہ کے جملہ مضامین علیہ کا جامع اور مصنف کی علمیت و فقاہت کا منہ بولتا شاہکار ہے۔ مصنف اپنے عظیم الشان کارنامے کو اپنا کارنامہ شمار ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے عاشق رسول ہونے کا فقادہ کو العطا یا السویہ فی فلہی الرضویہ کے ہم سے موسم کیا تھا۔

مدد مائیہ حاضرہ امام احمد رضا خلیل برلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اکثر تصانیف

کے ہم تاریخی تجویز فرمائے تھے۔ اور تاریخی نام بھی ایسے باکمال اور حیرت انگیز کہ ہم پڑھتے ہی فوراً "تین باتوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔

۱۔ وہ کتاب کس سن ہجری میں لکھی گئی۔

۲۔ کتاب کا نفس مضمون کیا ہے۔

۳۔ اس مسئلے میں مصنف کا موقف کیا ہے۔

آپ کی اکثر تصانیف کے تاریخی ناموں سے جہاں اسلامی عقائد و نظریات اور شرعی ادب و احترام کی خوشبو پھوٹ پھوٹ کر اہل ایمان کے دماغوں کو فرحت اور ایمانوں کو جلا بخشتی ہے۔ وہاں ان میں اوبنی الحافظ بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔

"شلا" آپ کی ایک کتاب کا نام الزہر الباسم فی حرمة الزکوة علی بن ہاشم ہے۔ یعنی کلیاں اسی بات پر مسکراتی ہیں کہ بنی ہاشم پر زکوة لیتا حرام ہے۔

امام احمد رضا خاں بریلوی در حسنة اللہ علیہ کا تاریخ گوئی میں کمال و کھانے کو غرض سے ہم آپ کی صرف چالیس کتابوں کے ہم ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہر کتاب کے ساتھ اس کے متعلق مذکورہ تینوں امور کی مختصری وضاحت بھی کر دی جائے گی کہ یہ کتاب کس سن میں لکھی گئی؟ کتاب کا نفس مضمون کیا ہے اور بحث کے اس موضوع کے بارے میں مصنف کا موقف کیا ہے۔ و بالله التوفیق

۱۔ سلطنه المصطفیٰ فی ملکوت کل الوری:- (۱۲۹۷ھ) اس نام سے جہاں کتاب کا سلسلہ تصنیف معلوم ہو رہا ہے۔ وہاں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کتاب کا نفس مضمون ملک خدا میں سلطنت مصطفیٰ کا اثبات ہے۔ مصنف نے سررور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کونیں میں بادشاہی کے دلائل پیش کئے ہیں، کیونکہ بحدیث کے باہم اینگلو انڈین علماء کی طبع نازک پر جبیب پروردگار علیہ وعلی آل الصلوة والسلام کے خصائص و کمالات گراں گزرتے ہیں اور کائنات ارضی و سماءی کی اس ممتاز ترین ہستی کے فضائیں و کمالات کا انکار کرنے سے ان کے دلوں کو

سرور آتا ہے۔ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل قاہرہ کے دریا بہا کر منکرین کو بجھا، خوف خدا و خطرہ روز جزا یاد دلایا اور صاف صاف کر دیا تھا۔

- آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے

پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

- ۲- اجلال جبریل بجعله خادماً للمحبوب الجميل:- (۱۴۹۸ھ) سن تصنیف کے ساتھ یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ تمام نوریوں کا سردار (حضرت جبرائیل علیہ السلام) بھی پروردگار عالم کے جمل والے محبوب، محمد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم ہے۔ لفظ اجلال سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس بارگاہ کا خادم ہونے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی توجیہ یا کسرشان نہیں بلکہ یہ تو روح الامین کے لئے سرمایہ افتخار ہے۔

اجلال کے لفظ سے سارے پیش کردہ دلائل و نصوص کا خلاصہ یہی سامنے آ رہا ہے کہ بزرگی نام ہے محبوب پروردگار کی غلامی میں ثابت قدم رہنے کا۔ جو اس خدمت گزاری اور غلامی میں جتنا ثابت قدم اور پختہ کار ہے اتنا ہی ذی وقار ہے۔ جو جس قدر غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اتنا ہی حبیب خدا ہے۔ جو جتنا غلام حبیب ہے۔ اتنا ہی خدا ہے قریب ہے۔ یہ آئیہ کریمہ یہی درس دیتی ہے۔

قل ان کنتم تعبدونَ اللَّهَ أَلَيْهِ مُحَبَّوْ تَمَ فَرِمَادُوا لَوْكُوا أَلَرْ تَمَ اللَّهَ  
فَاتَّبَعُونِي يَحِبِّبُكُمْ اللَّهَ كُو دُوستِ رَكْحَتَهُ هُو تو مِيرے فرمانبردار  
وَيَغْفِر لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللَّهَ هُو جَاؤَ اللَّهَ تَمَسِّ دُوستِ رَكْحَتَهُ گَا اوَر  
غَفُور رَحِيمَ تَمَسِّ  
وَالا صَرِیان ہے۔

محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی  
خدا کے دامن توحید میں آپ ہونے کی

### ۳۔ اقامہ القيامہ علی طاعن القيام لنبی تھامہ۔ (۲۹۹)

(۱) سن تصنیف کے علاوہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تعظیمی قیام کرنے والوں پر جو لوگ طعن کرتے ہیں ان پر مصنف نے محکم دلائل کے ساتھ قیامت قائم کی ہے۔ اسی لئے امام احمد خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے بے ادب لوگوں کو سنا کر صاف کہہ دیا تھا۔

خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا!

دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا نلتے جائیں گے

### ۴۔ منیر العین فی حکم تقبیل الابهامین

(۱۳۰) سل تصنیف کے ساتھ یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ مصنف کے نزدیک انکوٹھے چونے کے عمل سے آنکھوں کو نورانیت کی دولت میر آتی ہے۔

### ۵۔ الہادالکاف فی حکم الضعاف

(۱۳۱) رسولہ منیر العین کے اس ذیلی رسالے کے تاریخی نام سے اس کے نفس مضمون کا پورے طور پر پڑھ لگ رہا ہے کہ اس میں ضعیف احادیث کے بارے میں مکمل ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اس رسالے کو الہاد الکاف کہنا مبالغہ یا شیخی نہیں بلکہ مبنی بر حقیقت ہے کیونکہ اس مبارک عمل سے جتنے والوں میں سے کوئی بُوے سے بُرا بھی اس رسالے کی کسی ایک دلیل کو رد نہیں کر سکا، بلکہ کسی جھت کا کمزود ہونا بھی کسی سے ثابت نہیں کیا جاسکا، پوری کتاب کا جواب لکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ قلم کی اس سلامت روی کا امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خود بھی احساس تھا اسی لئے تائید ایزوی کے باعث آپ نے یہ اعلان فرمادیا

تمہد

کلک رضا ہے خنجر خونخوار بمق بار  
اعدا سے کہہ دو خیر ملائیں، نہ شر کریں

## ۶۔ احلی من السکر لطلبہ سکر روسرا

(۳۰۳ھ) سل مصنف کے ساتھ ہی روسرا کی شکر کے بارے میں تصنیف کا  
نظریہ لفظ الاحلی سے بخوبی واضح ہو رہا ہے۔ اسی لفظ کی تشرع کرتے ہوئے مجدد  
ماہہ حاضرہ المام احمد رضا خلن برطوی رحمۃ اللہ علیہ بھی رقطراز ہیں۔ «من  
لطائف هنالاسم مطابقہ للمسمی من جهہ ان الرسالہ کما  
حکمت علی هناء السکر لحكمین الحل فی  
صورۃ والمحرمہ فی اخری كذلك لہنا الاسم وجہان الی  
کلا الحکمین فالمعنى علی الحل انها اعلیٰ لهم من السکر  
لتسویغها لهم ما تشتہیه انفسهم من لزلہ الوساوس ودفع  
الطعن وعلی الحرمه انها وان نتھم عن سکر فلم تحرمهم  
الحلاؤة فان تحقیق حکم الشرع لذة القلب وتناول  
المشتہات النفس والاولی لهم واعلیٰ فہذا الرسالہ احلی لهم  
من السکر الذی حرم عليهم»

## ۷۔ انوار الانتباء فی حل ندائیار رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

(۳۰۳ھ) ندائیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لفظ  
حل اور انوار سے مصنف کا نظریہ بخوبی واضح ہو رہا ہے لور نفس مضبوط بھی اس  
تاریخی تم سے خود ہی عیاں ہے۔ خدائے ذوالمسن نے جس محبوب کو اپنے فضل و  
کرم سے سب مشکل کشاویں کا بھی مشکل کشا بیٹایا ہو، جس حبیب کو سب حاجت  
رواؤں کا بھی حاجت رو ا مقرر فرمایا ہو اور ساری کائنات کو جس سرور کو نین صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست نگر بنایا ہو اگر صحیت کے وقت میں اسے نہ پکارا  
جائے، آڑے وقت میں اگر اس سے فریاد نہ کی جائے تو پروردگار عالم نے والذین  
اذظلموا انفسهم جاؤ کرنا اور کس کے پارے میں فرمایا ہے کیا اللہ جل  
مجده نے اس آیت کریمہ میں اپنے حبیب کی بارگاہ کو مرجع خلافت لور اہل ایمان کا  
بلاؤ ماری قرار نہیں دیا؟ اسی لئے تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ  
رسالت میں یوں عرض گزار رہتے تھے

رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تحر  
شا بہر اذیں خوافم انخشی یار رسول اللہ ملکویتم

## ٨- تحلیل الیقین بان نبینا سید المرسلین

(۵۰۳۰ھ) ہمارے آقا و مولیٰ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء  
مرسلین علی نبینا و ملیحہ الصلوٰۃ والسلام کے سردار ہیں۔ یہ بات قرآن و حدیث  
کے اتنے نصوص سے ثابت ہے جن کا شمار ممکن نہیں۔ امام احمد رضا خاں بریلوی  
رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے میں اسی بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح  
کیا ہے۔ اسے یقین کی جگہ قرار دینے سے مصنف کا نظریہ بھی بخوبی معلوم ہو رہا  
ہے یعنی۔

وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا  
کہ کلام مجید نے کھائی شا، تیرے شرو کلام بقا کی تم  
۹۔ انہار الانوار من یم صلوٰۃ الاسرار

(۵۰۳۱۰) مصنف نے صلوٰۃ الا سرار یعنی نماز غوہیہ کو لفظ یہم سے تعبیر کر کے اس رسالے کے دلائل کو جو انوار یعنی نور کی نہیں قرار دیا ہے اس سے نماز غوہیہ کے بارے میں مصنف جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے مثل فدائی کا نظرہ خود واضح ہو رہا ہے۔ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو پار گاہ

رسالت مب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یوں استغاثہ پیش کیا کرتے تھے۔  
تری سرکاری میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع  
جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا

## ۱۰- حیات الموات فی بیان سماع الاموات

(۵۳۰ھ) مصنف نے حیات الموات کا لفظ استعمل کر کے اس بارے میں اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہی بیان کر دیا کیونکہ موت واقع ہو جانے سے روح تو کسی کی بھی نیس مرتی، ہل روح اور جسم کا مخصوص دنیاوی تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عالم برزخ میں بھی جسم اور روح کے درمیان قدرت ایک گونہ تعلق قائم فرمادیتی ہے جس سے روح کو ثواب یا عذاب کا احساس ہو سکے۔ بایں وجہ مروؤں کو سماع و اور اک کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ رہا خاص بندوں کا معاملہ تو ان کا سماع و اور اک بھی علی قدر مراتب خاص ہوتا ہے۔ اور حضرات انبیاء کرام علی نبینا و ملئهم الصلوٰۃ والسلام کی دنیاوی اور برزخی زندگی میں قطعاً "کوئی فرق نہیں ہوتا۔"

احقر نے تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خل بیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض رسائل کو گزشتہ برسوں میں جو رسائل رضویہ جلد اول اور رسائل رضویہ جلد دوم کے ہم سے جدید انداز میں منظر عام پر لانے کی داغ بیل ڈالی تھی وہ سلسلہ بفضلہ تعالیٰ تماحل جاری ہے۔ اصل حادیۃ کمپنی لاہور کے زیر انتظام شائع ہونے والی حیات الموات کو بھی اسی انداز میں لانے کی حقیقت الامکن سعی نو کی گئی لیکن کاتب صاحب سے تمام گزارشات پر عمل نہ ہو سکا۔ بہرحال جس قدر حسن جدت پیدا ہو سکا وہ بھی غنیمت ہے۔ مذکورہ ادارے کے زیر انتظام اس ایمان افروز، باطل سوز کتاب کا دوسرا ایڈیشن عنقریب منظر عام پر آنے والا ہے۔ امید قوی ہے کہ اس پر راقم الحروف کا لکھا ہوا یہ قطعہ تاریخ طباعت بھی

آئے مگر انشاء اللہ تعالیٰ۔

### قطعہ تاریخ طباعت

پھر چھپ گئی کتاب حیات الموات ہے۔  
 جاری ہوا یہ چشمہ آب حیات ہے  
 قائم نصوص اس پر کے چار سو پچاس  
 مرتا ہے جسم روح کو دائم ثبات ہے  
 منکر سلیع موتی کا ہے ضد سے آج جو  
 ایسے کے لئے روز منور بھی رات ہے  
 اک بھی دلیل تیری کسی سے نہ رو ہوئی  
 لک رضا کے زور تری کیا ہی بات ہے  
 تھا کل وہی سرایہ ملت کا نگہبان  
 احمد رضا کی اس لئے مخصوص ذات ہے  
 وہ چودھویں صدی کا مجدد ہے لا کلام  
 علم و عمل میں دیکھ لو عالی صفات ہے۔  
 اختر ہے یہ کتاب نشور تجلیات  
 یا مر درخشش کے اجالوں کی بات ہے

### ۱۱۔ اسماع الاربعین فی شفاعة سید المحبوبین

(۳۰۵ھ) جیب پروردگار، شافع روز شمار، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی صاحب شفاعت کبری ہیں۔ محشر کی تپتی ہوئی زمین پر اور آگ کی بارش برسانے والے برد رخشیں کے نیچے، جب وہ سروں سے سوانیزے کے فاصلے پر شعلہ بار ہو گا تو زمین تپ کرتا نہ کی طرح ہو جائے گی۔ اس وقت بنی نوع

انسان کے سر تاج، اللہ تعالیٰ کے سب سے لاڈ لے بندے یعنی حضرات انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلوٰۃ والسلام تک نفسی نفسی پکارنے لگیں گے۔ ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہو گی کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو گا۔ اپنے بھی غیر ہو جائیں گے، غیروں سے برباد کر منہ چھپائیں گے، ہرگز ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ ایسی مشکل کے وقت میں مشکل کشائی کرنے والا ایسی بجائے بے الہ کے موقع پر بلا وفع کرنے والا، ایسی حاجت کے وقت حاجت روائی کرنے والا وہی حبیب کبریا ہے۔ جو ہم عاصیوں کے بحر غم کا کنارا، مخلوق خدا کا آخری سارا، شفاعت کا دو لہا، امت کی کشتی کا ناخدا اور میں نوع انسان کے اذہبواالی غیری سننے والے وندے سے انا لہا فرمانے والا ہے۔

ہل ہل وہی عرب کا سورج عجم کا چاند، صاحب تمج و معراج، مخلوق خدا کی لاج، آمنہ کے جگر پارا، عبد اللہ کی آنکھوں کا تارا ہی تو ہے جو گرتوں کو اٹھانے والا روتوں کو ہمانے والا غیروں کو سینے سے لگانے والا اور ہر کسی کی بگڑی بنانے والا ہے۔

صرف وہی ایک تو ہو گا جو میدانِ حرث میں مخلوق خدا سے شفاعت کی بلت سن کر انا لہا فرمائے گا۔ صرف وہی ایک ہو گا جو اپنے خالق و مالک کے حضور شفاعت کے لئے لب کشائی کی جرات فرمائے گا۔ صرف وہی تو ہو گا جو سجدے میں گر کر گرے ہوئے سندوں کو اٹھائے گا آنسوؤں کے سیلاں سے آتش جہنم کو بجھائے گا عرصاتِ محشر میں پھنسے ہوئے انسانوں کے بے پناہ ہجوم کو میزان کی جانب بھجوائے گا۔ شفاعت کا درکھول کر مخلوق خدا کی بگڑی بنائے گا اور اپنے غلاموں سے خدا کی جنت کو آبلو فرمائے گا۔

اس روز خدا کی بادشاہی کے سوا کسی کی بدشای کا نیشن بھی نہ ہو گا۔ لمن الملک الیوم کے جواب میں ہر جانب سے لله الواحد القهار کی آوازیں

ہی آئیں گی۔ محب جب اپنی قدرت و جلال کے جلوے دکھائے گا تو سب کے دلوں پر اپنے محبوب کی عظمت کا سکھ بھی بخھائے گا، سب کو ان کا دوست نگر بنائے گا، سب کو ان کے حضور جھکائے گا، ان کی ذات والا صفات کو مر جت خلائق بنائے گا، ان کے ذریعے سب کی بگڑی بنائے گا، شفاعت کبری کا تاج ان کے سر اقدس پر سجائے گا، درودوں کی پارش برسا کر فتر ضمی کے ہار پہنائے گا، محبوب کی رضا کو اپنی رضا ثھرائے گا، اپنے حبیب کے ذریعے جنت کو اس طرح آباد فرمائے گا کہ اس شانِ محبوبی کو دیکھ کر اگلے پچھلے بے ساختہ پکارا نہیں گے۔

فقط اتنا سبب تھا انعقاد بزمِ محشر میں  
کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی تھی

## ۱۲۔ سبعون السبوح عن عیب کذب مقبوح

(۷۳۰ھ) دہلی کے نامور علمی خاندان کا ایک نوجوان عالم اپنی ناتجربہ کاری کے باعث ساحرین فرنگ کے جال میں پھنس گیا۔ موصوف کو کٹھ پتلی بنائے کر انگریزوں نے متحده ہندوستان کے اندر دینی اختلاف کا سنگ بنیاد رکھا اور ان سے مقدس شجرِ اسلام کے اندر غیر اسلامی عقائد و نظریات کی کتنی ہی قلمیں لگوائیں جن میں سے ایک امکان نظریہ کافته بھی ہے۔

جب علمائے کرام نے اس سراسر غیر اسلامی نظریہ پر موصوف کا تعاقب کیا تو انہوں نے لا جواب ہونے پر فرار کی ہرگلی بند دیکھ کر سارے لئے دوسرا فتہ امکان کذب کے نام سے کھڑا کر دیا یعنی موصوف کے نزدیک ان کا خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) متحده ہندوستان میں متوں ان غیر اسلامی عقائد و نظریات کو پیر جمانے کا موقع ہاتھ نہ آیا بلکہ غیور پشاووں کی بدولت یہ تمام فتنے بال کوٹ کی سر زمین میں ہیشہ کے لئے دفن ہوئے اور مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیتا شروع کیا تھا۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز دوبارہ اس ملک پر قابض ہوئے تو انہوں نے پہلے تمام مردہ فتنوں کو از سر نو زندہ کرنا شروع کر دیا۔ امکان کذب کے فتنے کو ہوا دینے کی خاطر حکومت نے دو تین علماء کی خدمات حاصل کریں اور ان حضرات نے جب خوف خدا و خطرہ روز جزا سے سراہر بے نیاز ہو کر امکان سے بڑھ کر وقوع تک کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ کاش! وہ حضرات اتنا سونپنے کی توفیق پاتے کہ اس عقیدے کے باعث وہ پورے اسلام کو ناقابل یقین ثہرانے کی ممکن چلا رہے ہیں، اسلام کے محدثے میشے دو دھ میں کفر کا زہر دلار ہے ہیں اور اس طرح بے خبر مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے ہمیشہ کے لئے محروم کر رہے ہیں۔

ان حالات میں سرمایہ ملت کے نگہبان لام احمد رضا خاں برطلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام اور مسلمانوں کی خیرخواہی کے جذبے سے سرشار ہو کر اس فتنے کا بھی سد باب کیا اور سجن البوح نامی رسالہ ایسے محققانہ انداز میں تحریر فرمایا کہ ایک جانب اکابر متکلمین حضرات کی آنکھیں یقیناً محدثی ہو گئی ہو گئی اور دوسری طرف سچے خدا کو جھوٹا بتانے والوں کی ہمیشہ کے لئے زبان بند کر دی۔ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کے اس محسن کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزاً خیر مرحمت فرمائے اور اپنے ان خصوصی انعامات سے نوازے۔ جو سرمایہ ملت کے دوسرے نگہبانوں یعنی مجددین حضرات کا حصہ ہے۔ آمین۔

### ۳۔ الیاقوت الواسطہ فی قلب عقد الرابطہ

(۱۳۰۹ھ) اپنے مرشد کا دل میں تصور جمانے کو شغل برزخ یا رابطہ کہتے ہیں۔ رسالے کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس کا موضوع تصور شیخ ہے۔ الیاقوت الواسطہ لکھنے سے مصنف کا نظریہ بھی سامنے آگیا کہ ان کے نزدیک یہ تصور یا قوت کی طرح بیش بہا، گرائیا اور متلاع عزیز کی طرح سنبھالنے کی چیز ہے۔

## ۱۴۔ بذل الجواز على الدعاء بعد صلوة الجنائز

(۱۳۰ھ) نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کے جواز میں اپنے پیش کردہ دلائل کو بذل الجواز قرار دینے سے امام احمد خاں بریلوی قدس سرہ کا موقف بھی واضح ہو گیا اور اس رسالے کا نام ہی سے سلسلہ تصنیف بھی برآمد ہو رہا ہے۔

## ۱۵۔ الامن والعلی لناعتی المصطفی بدافع البلاء

(۱۳۰ھ) مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جملہ بزرگان دین کی طرح امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعطائے الٰئی دافع البلاء مانتا ہرگز کفر و شرک نہیں بلکہ یہ عقیدہ رکھنے والا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ پکڑے کے باعث امن میں رہتا اور رتبہ عالیٰ سے نوازا جاتا ہے۔ سن تصنیف بھی نام سے عیاں ہے۔

## ۱۶۔ سلب اثلب عن القائمین . طهارتہ اکلب

بعض علماء کرام نے کتنے کو نجس یعنی سمجھا تھا لیکن ایسا نہیں ہے۔ قائمین طهارت کے متعلق مصنف کا سلب اثلب لکھنا ان کے موقف کی وضاحت کر رہا ہے۔ اور اس بلند پایہ اور تحقیقی رسالے کا تاریخی نام بھی واضح ہے۔

## ۱۷۔ الكوکب الشهابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ

(۱۳۱ھ) دہلی کے نامور علمی خاندان سے ایک نوجوان عالم ساحرین فرنگ کے جال میں پھنس کر اصلاح کے نام سے اسلام کی تبلیغ کرنے لگے تھے۔ مجدد مائہ حاضرہ نے اس رسالے میں یہ تبلیغ فریضہ ادا کیا ہے کہ دہلوی صاحب موصوف کے غیر اسلامی عقائد و نظریات ان کی تصانیف سے اصل عبارتیں مع کامل حوالہ جات پیش کر کے واضح کئے ہیں اور ان کی روشنی میں موصوف پر ستر و جہ سے لزوم کفر کا ثبوت دیا ہے۔ موصوف کے معتقدین ان میں سے ایک کفر کا بوجہ بھی اپنے

امام کے سر سے شریعت مطہرہ کی روشنی میں آج تک اتار نہیں سکے ہیں۔ ان حالات میں اس رسالے کو الکوکبہ الشہابیہ کہنا حقیقت کے عین مطابق اور مشائے ایزدی کا آئینہ دار ہے۔

**۱۸- حاجزین البحرين الواقی عن جمع الصلواتین**  
 (۱۳۱۳ھ) ایک عالم نے اپنی تصنیف معیار الحق میں دو نمازیں جمع کر کے پڑھنے کے جواز پر اپنی حدیث دانی کے خوب جو ہر دکھائے ہیں۔ زیر بحث رسالے میں حضرت امام اہل سنت برلنی نے ان کے پیش کردہ دلائل کا جائزہ لیا ہے۔ اور موصوف پر ایسی علمی گرفتیں کی ہیں جن کے جواب سے وہ آخری دم تک عمدہ برآ نہ ہو سکے اور ان کے معتقدین میں سے کسی عالم نے آج تک ان علمی مוואخذوں میں سے کسی ایک مواخذے پر لب کشائی کی گنجائش نہیں دیکھی ہے۔ انصاف سے اس رسالے کو دیکھا جائے تو اس بلند پایہ اور تحقیقی رسالے کے ذریعے آج بھی کتنی بھی غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

#### **۱۹- القطوف الدائیہ لمن احسن الجماعہ الشانیہ**

(۱۳۱۳ھ) اسی تصنیف رسالے کے نام ہی سے ظاہر ہے۔ اس حیرت انیز نام ہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ جماعت مانیہ مطلقاً منع نہیں بلکہ بعض صورتوں میں مستحسن ہے جیسا کہ لفظ احسن سے عیاں ہے اور بغیر شرعی عذر ہر کسی کے لئے جائز بھی نہیں جیسا کہ لفظ لمن سے واضح ہو رہا ہے۔ یہ رسالہ بعض غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے بہت ہی مفید و مافع ہے۔

#### **۲۰- الفضل اموهبی فی معنی اذاصح الحدیث فهو منذهبی**

(۱۳۱۳ھ) تاریخی نام ہی سے ظاہر ہے کہ رسالہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ

رحمتہ اللہ علیہ (المتویٰ ۱۵۰ھ / ۶۷ء) کے ایک مشہور قول کے بارے میں ہے ۔ بعض حضرات نے احادیث مظہرہ کو اپنی مرضی کے مفہوم و مطلب کا لباس پہنانے کی خاطر حضرت ام الملمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ قول کا سارا لیا تھا۔ اس طرح وہ حضرات ذیرلش گورنمنٹ کے ذریعہ حدیثوں کے ایسا مطلب بیان کرنے لگے جو ان کے اپنے ذہنوں کی ایجاد تھے۔

چودھویں صدی کے مجدد برحق امام احمد رضا خاں بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے ان حضرات کی اس سراسر نازب احرکت کا سد باب کرنے اور مسلمانوں کو غلط فہمیوں کا شکار ہونے سے بچانے کی خاطری تحقیقی رسالہ لکھا اور غلط فہمی پھیلانے والوں کے بظاہر جو شناجل کے سارے تاریخ پوچھیر کر رکھ دیئے۔

## ۲۱- الصمصمام علی مشکک فی ایہ علوم الارحام

(۱۳۱۵ھ) اس تاریخی نام سے واضح ہے کہ علوم الارحام سے متعلقہ آیت کا غلط مطلب لے کر بعض پادری حضرات اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے۔ یہ رسالہ ایسا کرنے والوں کی گردن پر تکوار کا کام کرتا ہے۔ علاوہ بریں علم مصلحتی کی خداداد و سعتوں کو سن کر جو حضرات مسلمان کھلانے کے باوجود خواہ مخواہ جل بھن جاتے ہیں۔ اس ایمان افروز رسالے میں ان کے علاج معاملے کا فریضہ بھی کسی ڈر ردا کر دیا گیا ہے۔

## ۲۲- جہمان التاج فی بیان الصلوۃ قبل المراج

(۱۳۲۶ھ) اس موسم باسم تاریخی رسالے میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز پنج گلنہ تو مراج شریف کے موقع پر فرض ہوئی لیکن اس سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے وہ کس طرح پڑھی جاتی تھی۔ اس تحقیق ایق کو جہمان التاج کا لقب دیتا ہے اور اسے برقیقت ہے۔

## ٢٣۔ الجام الصاد عن سنن الصاد

(۱۳۱ھ) یہ تاریخی رسالہ فی قرأت و تجوید سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں ان حضرات کی فنی غلطی کو واضح کیا گیا ہے جو صاد کو ظاء کی طرح پڑھتے ہیں۔ دونوں حروف کے مخارج اور صفات لازمہ و صفات محسنة بیان کر کے ہر ایک کے مخرج کیوضاحت کر دی گئی ہے۔

## ٢٤۔ جزاء الله عدوه بآئہ ختم النبوة

(۱۳۱ھ) مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ اجماعی و اتفاقی عقیدہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ ساڑھے تیرہ سو سال کے بعد تحدہ ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ کا ارادہ ہوا کہ یہاں کسی "نبوت کا دعویٰ کروائے" مکہ مسلمانوں میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکے۔ حکومت نے اپنے منصوبے کے تحت بعض علماء کی خدمات حاصل کر لیں اور انہوں نے ختم نبوت کے اجماعی عقیدے کے بر عکس اس اسلامی عقیدت میں مبنی مانے پیوند لگانے شروع کر دیئے تاکہ ادعائے نبوت کے لئے راستہ ہموار ہو جائے۔

لام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۷۱۳ھ/۱۸۹۹ء میں اس اجماعی عقیدے میں کثریوت کرنے والے جملہ منکرین ختم نبوت کے رد میں مقدس رسالہ لکھا اس میں ایک سو تیس احادیث اور تیس نصوص سے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ واضح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ آپ قصر نبوت کی آخری ایش ہیں۔ اس رسالے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں اثبات مدعی پر جتنی احادیث پیش کی ہیں ان میں سے نو حدیثیں مرفوع ہیں۔ یہ خصوصیت اس موضوع پر لکھی جانے والی کسی بڑی سے بڑی تصنیف کو بھی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ والحمد للہ علی ذالک

اس رسالے کی تصنیف کے دو سال بعد ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱ء میں مرزا غلام احمد قادریانی (المتومنی ۱۳۲۶ھ / ۱۹۰۸ء) سارے ہندوستانی مفکرین ختم نبوت سے بازی لے گئے اور انہوں نے حکومت وقت کے مصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ۱۳۲۰ھ / ۱۹۰۲ء میں مرزا صاحب موصوف اور دیگر مفسدین کی شرعی پوزیشن کا امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے المحمد المستند میں اظہار کر کے اپنا شرعی فریضہ ادا کیا اور ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۵ء میں اپنے اس فتویٰ کی تصدیق علمائے حرمین شریفین سے کروائی۔ ان بزرگوں کی مقدس تصدیقات اور تقاریظ کے مجموعے کا ہم حسام الحریم علی منحراً لکفروالمیں ہے۔ یہ مبارک رسالہ حق و باطل کے درمیان خط فاصل کھینچ دیتا ہے۔

## ۲۵- مالی الجیب بعلوم الغیب

(۱۳۱۸ھ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے علوم غیریہ سے سرفراز فرمایا تھا جو حد و حساب سے باہر ہیں۔ یہ رسالہ اس موضوع پر دلائل کا ایک سمندر ہے۔ کتاب کے نام ہی سے مصنف کا نظریہ واضح ہے۔ معلوم نہیں موجودہ اہل سنت و جماعت نے ایسی عظیم الشان اور ایمان افروز و باطل سوز کتاب کا نیا بہونا کس طرح برداشت کیا ہوا ہے۔

## ۲۶ - الولؤالمحک: دن فی علم البشیر ماکان وما یکون

(۱۳۱۸ھ) یہ نادر روزگار رسالہ گویا مالی الجیب کا ایک باب یا اسی بحر کی لہری اسی دریا سے نکلی ہوئی ایک نہر ہے۔ اس میں دلائل کے صرف ان موتیوں کو ایک ایمان افروز اور خوشنازعی میں پرویا ہے جن سے صاف صریح طور پر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماکان و مایکون کے جاننے والے ہیں بلکہ آپ کو اس سے بھی بدرجہ جائز کا علم ہے۔ کیونکہ

فَإِنْ مَنْ جَوَدَ كَذَلِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّهَا  
وَمَنْ عَلَمَ عِلْمًا مُكَلِّمًا لِلْوَحْشَاتِ وَالْقَلْمَ

## ۲۷- آباء المصطفیٰ بحال سرز و اخفی

(۱۸) رسالے کے تاریخی نام ہی سے ظاہر ہے کہ خدا نے ذوالمن نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر اور پوشیدہ ہر امر سے مطلع فرمایا ہوا ہے۔ کونین کا شلدہ بنانا کرسب کچھ انہیں دکھایا ہوا ہے، پوروگار نے عطا فرمایا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا علم بخشنا گیا، معاملہ محب و محبوب کا ہے لیکن بعض حضرات معلوم نہیں کیوں اس بات پر ناراض ہوتے اور اپنی مرضی کو اس معاملے میں رخیا، نھرائے ہیں۔

## ۲۸- الدوْلَةُ الْمَكَيِّهُ بِالْمَادَةِ الْغَيِّيَه

(۲۳) امام احمد رضا خاں برلنی رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۲۳ھ کے آخر میں جب حج بیت اللہ اور زیارت روضہ مطہرہ کی غرض سے کہ معظمہ حاضر ہوئے تو متحده ہندوستان کے بعض مخدین نے اپنے کارندوں کے ذریعے شریف مکہ کے کان بھرے کہ یہ شخص بد عقیدہ اور فتنہ پرداز ہے۔ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم غیریہ سے متعلق پانچ سوال آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ چودھویں صدی کے مجدد برحق نے کتاب کی صورت میں جواب لکھا اور اس کے دو حصے کئے۔ پہلے حصے میں نفس مسئلہ یعنی عقیدہ علم غیب کو مدایہ و مبرہن کیا اور دوسرے حصے میں پانچ سوالوں کا جواب دیا۔ پہلا حصہ سلت گھنٹے میں اور دوسرا ڈیڑھ گھنٹے میں لکھا گیا۔ یوں مختلف نشتوں کے اندر ساز ہے۔ نہ گھنٹوں میں وہ عظیم الشان اور محققانہ کتاب تیار ہو گئی کہ مکہ معظمہ کی مایہ ناز علمی ہستیاں بھی اس شان تحقیق پر انگشت بدنداں رہ گئیں۔ یہاں سے پھر مدینہ منورہ اور دنیا کے جس صحیح العقیدہ عالم نے اسے دیکھا تو سر آنکھوں پر رکھا، رہا، اباکر

یہ امام زملہ کی تصنیف ہے۔ اس کے مظہر عام پر آتے ہی مفسدین اور ان کے ایجنسیوں کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے مقدس شہر میں اور شریف مکہ کے دربار میں اتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا کہ وہاں سے منہ چھپا کر بھاگنے کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اس مقدس رسالے پر علمائے حرمین طسین کے علاوہ جمال دیگر ممالک کے ممتاز علماء کی تقاریظ ہیں وہاں عالم اسلام کی مالیہ ناز علمی شخصیت یعنی علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۹۳۵ھ / ۱۹۲۱ء) کی تقریظ بھی ہے۔

**۲۹- حسام الحر میں علی منحر الکفر والمیں**  
 (۱۳۲۷ھ) یہ مبارک رسالہ علمائے حرمین شریفین کی ان تقاریظ کا مجموعہ ہے جو انہوں نے چودھویں صدی کے مجدد برحق کے اس فتوے کی تائید و تصدیق میں رقم فرمائی تھیں جو انہوں نے متحده ہندوستان کے بعض گمراہوں کے بارے میں شرعی فرضہ او اکرتے ہوئے صادر فرمایا تھا۔ اس مقدس رسالے کو مصنف کا حام الحرمین لکھتا اور جن کی گردنوں پر یہ تکوار چلی ان کے متعلق علی منحر انکر والمیں لکھنا حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ برش گورنمنٹ کے پر فتن دور سے یہ مبارک رسالہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو "عموماً" اور اسلامیان پاک و ہند کے مسلمانوں کو "خصوصاً" حق و باطل میں تمیز کرنے کے لئے کسوٹی کا کام رہتا ہے۔ اسے دیکھ کر بے اختیار کرنا پڑتا ہے۔

دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا

کسی نے تیرے سوا شاہ احمد رضا

### **۳۰- حسن التعمیم لبيان حلالتیم**

(۱۳۲۵ھ) مولانا ظفر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۹۴۴ھ / ۱۹۸۲ء) نے دور حاضر کے فقیہ اعظم، امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ سے

تہم کی تعریف اور ماہیت شریعہ پوچھی۔ مجدد برحق کا رہوار قلم میدان تحقیق میں ایسا سرپت دوڑا کہ جہازی سائز کے دو سو اڑسٹھ صفحات پر جواب پھیل گیا۔ یہ جواب فتاویٰ رضویہ جلد اول کے صفحے نمبر ۵۸۶ تا ۸۳۹ پر محیط ہے۔ شان تحقیق اور وسعت نظر کو دیکھ کر ہر انصاف پسند بیساختہ یہ پکارا ٹھے گا کہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دور حاضر کے فقیہ اعظم ہیں اور اس میدان میں دوسرا کوئی بھی صاحب علم آپ کی گرد راہ کو بھی نہیں پاسکا۔

امام زمانہ نے اس میں تہم کی سات تعریفیں بیان کیں، جملہ پیش آمدہ صورتوں کی وضاحت کر کے ان کے احکام کی وضاحت فرمائی۔ جنس ارض کی تحقیق فرماتے ہوئے اجسام نار کے اثرات سے جنس ارض کی مختلف حالتوں کی وضاحت فرمائی۔ منی کی طمارت کا ثبوت دے کر اس امر کو مبرہن کیا کہ حنفی المذهب مفتی کے لئے ضروری ہے کہ وہ امام المسلمين، امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ (المتون ۱۵۰ھ ۷۷۴ء) کے قول پر فتویٰ دے۔ ان جزئیات کی تحقیق میں بعض فقہاء سے جو لغزشیں واقع ہوئیں اور تحقیق میں کوتایی سرزد ہوئی ان کی اصلاح فرماتے چلے گئے لیکن تطفیل کا نام دے کر۔ فقہائے کرام کے مختلف ضابطے پیش کر کے تمام ضابطوں کا جامع رضوی ضابطہ پیش کیا۔ غرضیکہ فقہ کی قدیم و جدید کتابوں کی روشنی میں متقدہ میں، متاخرین فقہاء کی تحقیقات کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے نقیٰ پرواز کی وہ بلندی دکھائی ہے کہ انصاف پسند صاحب علم یہ کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس رسالے کا مصنف دور حاضر کا فقیہ اعظم، مشاہیر علماء کا سردار اور امام زمانہ ہے۔

### ۲۱۔ تمهید ایمان بایات القرآن

(۱۳۲۶ھ) قرآنی آیتوں سے رنگ ثبوت پانے والا یہ ایمان افروز، باطل سوز رسالہ یہ بتاتا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ جو خوش نصیب ایمان کی دولت سے ملا مال ہو اسے خداۓ ذوالمسن کی انعامات سے نوازے گا اور جو بد نصیب اس

سے محروم ہو اس کا انجام کیا ہو گا نیز یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ کن باتوں سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس تہمید کے اندر بعض ان گمراہ گروہوں کی گمراہ گری کا راز بھی فاش کیا گیا ہے جو پیش خویش تو علم و عرفان کی مندوں پر بر اجمن رہے اور اپنے اپنے حلقوں میں ان کے جبہ و دستار کو نذرانہ عقیدت پیش ہوتا رہا لیکن وہ اپنی ایمان جیسی متع عزیز کو کسی کی چشم ابرو کا اشارہ پا کر ضائع کر چکے تھے۔ ایمان کو سب سے نیتی دولت سمجھنے والوں کو یہ رسالہ مشعل راہ کا کام دیتا ہے۔

## ۳۲۔ کنز الایمان فی ترجمہ القرآن

(۱۳۳۰ھ) متقدمین و متاخرین کی تقاضیر کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ہر انصاف پسند کو یہ مانتا ہی پڑے گا کہ قرآن کریم کا جو امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے اس کے کنز الایمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ترجمہ دیگر تمام اردو تراجم سے بہتر اور واقعی ایمان کا خزانہ ہے۔

بریش گورنمنٹ کے پر فتن دور میں بعض گمراہ گروہوں نے بھی قرآن کریم کے ترجمہ کئے، لیکن ان حضرات نے اپنے ترجموں کے ذریعے اپنے مخصوص عقائد و نظریات کو اپنے اپنے ترجمے میں جا بجا نہونس کرایسا بنا دیا ہے کہ ان کے قارئین کو ہدایت کی جگہ گمراہی ملے۔ آزادی کے بعد بھی بعض حضرات نے اسی ذگر پر ترجمے کر کے اپنی گمراہ گری کی دکان کی رہبری کے نام پر خوب چکایا ہے۔ ایسے کرم فرماؤں نے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

(المتوفی ۱۴۳۲ھ / ۱۸۱۴ء) اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔

(المتوفی ۱۴۳۰ھ / ۱۸۱۲ء) کے ترجموں میں بھی جا بجا تحریف کر کے اپنی مخصوص کارگری پر پورہ ڈالنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ دریں حالات اردو و ان طبقے کے لئے کنز الایمان ہی قابل اعتماد ترجمہ ہے۔ جبکہ دیگر تراجم سے استفادہ کرنا خطرے سے خالی نہیں۔

### ۳۳۔ تدبیر فلاح و نجات و اصلاح

(۱۳۳۱ھ) انگریزوں نے اپنے عدہ اقتدار میں مسلمانوں کو ہر لحاظ سے کچلنے اور بے دست و پا بنانے نیز ایمانی دولت سے انہیں محروم کر دینے میں کوئی وقیفہ فروگزاشت نہیں کیا تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کے سچے خیرخواہ یعنی امام احمد رضا خال بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامیان ہند کو بتایا کہ ان کی فلاح و نجات کس راستے پر چلنے میں ہے اور قوم کی اس گھبڑی ہوئی حالت کو کس طرح سنوارا جاسکتا ہے۔ نام نہاد مصلحین اور ریفارمروں میں بعض تو متعدد ہندوستان کے مسلمانوں کی ترقی و کامرانی کا راز انگریزوں کی وفاداری میں مضر بات تھے اور دوسرے اس مقصد کے لئے انہیں زنا دوستی اور بت پرست نوازی کا سبق پڑھاتے تھے لیکن ان سب کے برعکس امام احمد رضا خال بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تلقین فرمائی کہ مسلمانوں کی فلاح و نجات اور ترقی و کامرانی کا راز اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں مضر ہے۔ مسلمان اگر رضائی اللہ کے جویاں رہیں، ملت اسلامیہ کا رخ حرم کی جانب رہے اور آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ بنے رہیں تو ترقی و کامرانی ان کا مقدر ہو کرہ جائے گی اور ذلت کی موجودہ حالت سے نکل کر ان کی کشتی ساحل مراو پر جائے گی۔ یہ مختصر سارہ آپ کی دور انہیں، دور بینی، اصابع فکر و نظر اور ایمانی فرست کامنہ بولتا ثبوت اور آپ کے مصلح اعظم ہونے کا آئینہ دار ہے۔

### ۳۴۔ احلی الاعلام ان الفتوى مطلقاً" علی قول الامام

(۱۳۲۲ھ) مفتی اگر خنی المذهب ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر فتوی دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۲۰۳ھ/۸۲۹ء) نے فرمایا ہے۔ "الناس كلهم عبيال ابی حنیفه"

فی الفقہ" یعنی فقہ میں تمام لوگ (آئمہ و مجتہدین سمیت) امام ابوحنیفہ کے بال پر ہیں۔ جہاں اس نام سے رسالے کا سلسلہ تصنیف معلوم ہو رہا ہے۔ وہاں قول امام پر فتویٰ دینے کو احلى الاعلام قرار دینے سے اس بارے میں مصنف کا اپنا نظر بھی معلوم ہو رہا ہے۔

### ۳۵- قوانین العلماء فی متیم علم عند زید الماء

(۱۳۳۵ھ) کوئی شخص تمیم کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اسے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد یا دوران نماز معلوم ہو گیا کہ دوسرے شخص کے پاس پانی ہے۔ ایسے واقعہ کی جملہ ممکنہ صورتوں کے احکام، ان کے بارے میں علمائے کرام کے بیانات پیش کر کے ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ ان بزرگوں کے ضابطے پیش کر کے سب کا جامع اپنا ضابطہ پیش کیا ہے جس کی نظریہ سے فقہ کی کتابیں خالی ہیں۔

### ۳۶- الطلبۃ البدیعہ فی قول صدر الشریعہ

(۱۳۳۵ھ) تمیم کے مذکورہ مسئلہ میں شرح و قایہ کے اندر حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ظاہر مذهب کے خلاف واقع ہو گئی تھی۔ بعد کی تصانیف میں حضرات علمائے کرام نے اس پر تنقید کی ہے۔ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی ایسی نیس شرح فرمائی ہے کہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی روح بھی مارے خوشی کے پھرک اٹھی ہو گی۔ اس شرح کے باعث مذکورہ قول پر ہمیشہ کے لئے بحث کا خاتمه ہو گیا۔

### ۳۷- السنیقه الانیقه فی فتاویٰ الافریقہ

(۱۳۳۶ھ) یہ اس مجموعے کا تاریخی نام ہے۔ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سو گیارہ سوال افریقہ سے برائے جواب آئے۔ یہ

محققانہ رسالہ ان سوالات کے جواب پر ہی مشتمل ہے۔ ان جوابات کو الائیقہ  
الائیقہ قرار دینا حقیقت پر مبنی ہے۔

### ٣٨-الاستمداد على اجيال الارتداد

(۷۱۳۴ھ) یہ اس رسالے کا تاریخی نام ہے۔ جو تین سو سالہ اشعار پر  
مشتمل ہے۔ اس میں دین تین سے پھر جانے والے بعض جیالے مرتدین کے دو  
سو تین کفریہ اقوال کی نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ گمراہ گر برٹش  
گورنمنٹ کے جال میں پھنس گئے تھے اور اس کے چشم ابو کا اشارہ پا کر مقدس  
شجر اسلام میں غیر اسلامی عقائد و نظریات کی قلمیں لگا کر تخریب دین و افارق میں  
مسلمین کا کام کرتے تھے تاکہ ساحرین فرنگ سے منہ مانگی مراد پائیں اور دنیا وی  
چند روزہ زندگی آرام و راحت سے گزر جائے۔

### ٣٩-الذبده الزکیہ فی تحريم سجود التحییہ

(۷۱۳۴ھ) قرآن کریم کی آیت، چالیس احادیث اور فقہ کی ایک سو دس  
نصوص سے ثابت کیا ہے کہ کسی بھی بزرگ کے لئے ٹھیکی سجدہ حرام ہے اور  
اس پر امت محمدیہ کا اجماع دکھایا گیا ہے۔ یہ بھی واضح کیا ہے کہ ٹھیکی سجدے کو  
کفر و شرک بتانا بھی شریعت مطہرہ پر اعتماد اور خود شریعت بتانا ہے۔ نیز اس کے  
جواز کا فتوی دینا بھی شرع پر افتراء اور خزیر کو بکرا بتانا ہے۔ تعظیمی سجدے  
کی حرمت کو الذبده الزکیہ قرار دینے سے مصنف کا نظریہ کتاب کا نام ہی  
پڑھنے سے سامنے آ جاتا ہے۔

### ٤٠-المحجه المؤتننه فی آیه الممتحنه

(۷۱۳۵ھ) برٹش گورنمنٹ کے عمد میں جب آزادی کی تحریک زور پکڑتی جا  
رہی تھی تو بعض زیارت دوست اور بنت پرست نواز علماء نے ہندوؤں سے دوستی کو

جائز قرار دینے کی غرض سے سورہ المحتہ کی ایک آیت سے استدلال کرنا شروع کر دیا اور اس کا مطلب مثلاً ایزدی اور تصریحات علمائے کرام کے خلاف بیان کر کے اپنی گاندھویت کے لئے سارا ملاش کرتے تھے تاکہ جاہلوں میں دینداری کا بھرم بن رہے۔ ”کلوا واشربوا“ میں بت پرستوں سے دھرم ملا رہے اور انہوں میں بزرگ اور خلوص وللہیت کا فکوسی یقین حکم جمار ہے۔

مجد و مائہ حافظہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بعض علماء اور لیڈر کملانے والوں کی یہ ستم طریقی دیکھی تو اس فتنے کا سد باب کرتے رہے اور گاندھویت کے تابوت میں آخری کیل اس رسالے کے ذریعے ٹھوکی۔ اس میں وہ تحقیق ایق فرمائی کہ گاندھوی علماء کے سارے حیلے حوالے زندہ درگور کر دئے۔ ان کے لئے بولنے اور اس مسئلہ پر زبان کھولنے کی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑی۔ اس تحقیقی رسالے نے اسلامیان ہند کا رخ حرم سے سومنات کی جانب پھیرنے والے علماء کی دینداری کا راز فاش کر کے رکھ دیا تھا۔

امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے تاریخی ناموں سے جہاں عقائد و نظریات اور بزرگان دین کے ادب و احترام کی خوبصورت رہی ہے وہاں بعض تصانیف کے ناموں میں انتہائی لطافت شاعری اور حسن ادب بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً ”ایک کتاب کا نام ہے۔ الزہر بالباسم فی حرمه الزکوة علی بنی هاشم (سبحان اللہ)“ یعنی کلیاں اس بات پر مسکراتی ہیں کہ بنی ہاشم پر زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اگر اس طرح بعض خصائص کے لحاظ سے کتابوں کے نام مزید پیش کئے جاتے تو مضمون طویل ہو جائے گا جبکہ چالیس کتابوں کے نام بطور نمونہ پیش کر چکا ہوں اور میرا مقصد بھی یہی تھا کیونکہ چالیس کے عدد کی برکات عام مشهور اور تصانیف علمائے اعلام میں سطور ہیں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس مختصر سے مقالے میں احرق کی جو غلطی

دیکھیں اس سے از راہ کرم مطلع فرمائیں تاکہ لگلے 64  
 سکے اور اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازیں۔ خدا نے زوال من اپنے حبیب سیدنا محمد  
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کاؤش کو میرے لئے تو شہ آخرت اور  
 ذریعہ نجات بنائے۔  
 ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب  
 علینا انک انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالیٰ علی  
 حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آله وصحبہ اجمعین  
 گدائے در اولیاء

عبدالحکیم خل اختر عفی عنہ  
 مجددی مظہری شاہ جہان پوری  
 دار المعرفین لاہور

http://t.me/Tehqiqat



## ضروری وضاحت

۱۹۶۸ء میں مرکزی مجلس رضاۓ لاہور کا قیام عمل میں آیا جس کی تحریک پر مختلف اہل قلم اور علمائے کرام نے اسی سلسلہ اعلیٰ حضرت کے فقیحی مقام پر مضامین اور مقالات لکھے جن میں احقر کا مقالہ دوم قرار دیا گیا اور مجلس رضاۓ کی جانب سے شائع بھی ہوا۔ مذکورہ مقالے کی طباعت یقتو پر ہوئی اور اغلاط بھی کافی رہ گئی تھیں۔ درست کر کے ایک نسخہ مجلس رضاۓ کو برائے طبع ثانی دیا ہوا ہے مگر دوبارہ آفسٹ پر چھپ سکے دیکھئے ایسا کب ہوتا ہے۔

۱۹۶۹ء میں مجلس رضا والوں (حکیم محمد موسیٰ امرتسری محمد عارف رضوی اور راقم الحروف) نے منصوبہ بنایا کہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر مختلف عنوانات سے مضامین و مقالات لکھوائے جائیں اور جمع ہو جانے پر انہیں انوار رضا کے نام سے منظر عام پر لایا جائے۔ مختلف علماء کرام سے مضامین لکھنے کی ان دونوں درخواست کی گئی اور اکثر حضرات کی جانب سے مایوس ہونے کے بعد احقر نے اس مقصد کے تحت مندرجہ ذیل مضامین و مقالات لکھے۔

- ۱۔ اعلیٰ حضرت کی تاریخ گوئی
- ۲۔ فاضل بریلوی کا معتدل مسلک
- ۳۔ بدعت اور اعلیٰ حضرت
- ۴۔ کفر و شرک اور اعلیٰ حضرت
- ۵۔ مکفیر میں اعلیٰ حضرت کی احتیاط
- ۶۔ کنز الائیمان کی خصوصیات
- ۷۔ بلبل بلغہ مدینہ
- ۸۔ پروانہ شمع رسالت

ذکورہ مقالیں و مقالات میں سے اول الذکر مضمون احقر نے محترم حکیم محمد  
موسیٰ امرتسری مدظلہ العالی کو بھی دکھایا۔ موصوف نے بعض بڑے مفید مشورے  
دئے اور ان کے تحت ۱۴۲۹ھ مطابق ۲۳ جنوری ۱۹۷۰ء کو یہ مضمون  
دوبارہ لکھا گیا۔ حالات کی ستم طریقی اور بعض احباب کی مخلصانہ نوازشوں کے باعث  
آج تک ان میں سے ایک بھی مقالہ منظر عام پر نہیں آسکا ہے۔ بہر حال قدرت  
کو یہی منظور تھا کیونکہ ہر کام کا وقت مقرر ہے۔

بعض حضرات کے معاندانہ روپیے کے باعث احقر کو بڑی مایوسی ہوتی تھی لیکن  
ہر قسم کے حوصلہ میکن حالات کے بلوجود تاچیر کا راہوار قلم پوری برق رفتاری سے  
چلتا رہا اور ۱۹۷۳ء کے آخر تک امام احمد رضا خاں برلوی رحمۃ اللہ علیہ پر سات  
ہزار صفحات لکھ لئے تھے۔ جن میں معارف رضا کی چاروں جلدیں بھی ہیں جو  
”تقریباً“ چار ہزار صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ والحمد لله علی ذالک  
ستم طریقی کی انتہا اس وقت ہوئی جب یہ عصیاں شعار ڈیڑھ سل تک  
صاحب فراش رہا اور معارف رضا درگور ہو گئی۔ ان لله وانا الیه راجعون تو  
پڑھا لیکن قلبی میدان سے بڑی حد تک دل برداشتہ ہو گیا۔ جلد اول کے ساتھ اہل  
سنّت و جماعت کے مستقبل کی جانب سے بھی مایوسی بڑھی جاتی تھی کیونکہ

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساس زیاد جاتا رہا

جن بزرگوں نے قلم ہاتھ میں لیا تھا ان کا فیضان بفضلہ تعالیٰ شامل حل رہا  
اور انہوں نے بھی اس میدان سے اس نحیف و نتوان کو بھاگنے نہیں دیا۔ کبھی نئے  
موضوعات پر لکھتا رہا اور کبھی پرانے مسودات کے مبیضے تیار کرنے میں  
مغشول رہا۔ غرضیکہ جو خدائے ذوالمسن کو منظور ہوا۔ وہ کرتا رہا اور جو نہ کر سکا وہ  
اسے منظور ہی نہ تھا۔ آئینہ بھی وہی کچھ کر سکوں گا جو اس قاور مطلق کو منظور

ہو گا۔

یہ تاجیری ناٹھی اور علمی بے مائیگی کے باوجود ۱۳۸۲ھ / ۱۹۶۳ء میں رخانے جبکے لئے راہوار قلم کے سارے دیار جبکے کی جانب روشنہ ہوا تھا جس نے اپنی لگن لگائی ہے کامیابی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچانا بھی اسی ناخدا کا کام ہے۔ احقر نے تو بارگاہ رسالت میں اسی وقت عرض کر دیا تھا۔

آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانز  
کشتی تمہیں یہ چھوڑی لنگر انھا دئے ہیں

۲۹ شعبان المظہر ۱۴۰۰ھ

۱۳ جولائی ۱۹۸۰ء

http://t.me/Tehqiqat

# حوالشی

- ۱۔ محمد سعید احمد، پروفیسر فاضل بریلوی اور ترک موالات مطبوعہ لاہور ص ۲
- ۲۔ احمد رضا خاں، مجدد، حدائق بخشش، مطبوعہ کراچی، ص ۳۷
- ۳۔ ابدر الدین احمد، مولانا: سوانح اعلیٰ حضرت، مطبوعہ لکھنؤ، ۱۹۶۳ء، ص ۷۸
- ۴۔ محمد عبدالحکیم شرف قادری، مولانا: یاد اعلیٰ حضرت، مطبوعہ لاہور، ص ۱۷
- ۵۔ محمد ایوب قادری، پروفیسر تذکرہ علماء ہند اردو، مطبوعہ کراچی، ص ۳۳
- ۶۔ محمد سعید احمد، پروفیسر فاضل بریلوی علمائے جاز کی نظر میں، مطبوعہ لاہور، ص ۷۸
- ۷۔ محمد سعید احمد، پروفیسر فاضل بریلوی علماء جاز کی نظر میں ص ۷۰-۷۹
- ۸۔ ایضاً "ص ۷۰
- ۹۔ ظفر الدین بخاری، مولانا: حیات اعلیٰ حضرت، جلد اول، مطبوعہ کراچی، ص ۲۵
- ۱۰۔ محمد عبدالحکیم شرف قادری، مولانا: یاد اعلیٰ حضرت ۱۹۷۰ھ/۱۹۹۰ء، ص ۳۰
- ۱۱۔ محمد ایوب قادری، پروفیسر تذکرہ علماء ہند اردو، مطبوعہ کراچی،
- ۱۲۔ احمد رضا خاں، مولانا الاجازات المبنی، مطبوعہ لاہور ۱۹۶۱ھ/۱۹۸۱ء، ص ۲۲۹

- ۱۳۔ بدرالدین احمد، مولانا: سوانح اعلیٰ حضرت، مطبوعہ لکھنؤ ۱۹۶۳ء ص ۱۷۳
- ۱۴۔ محمد سعید احمد، پروفیسر: فاضل بریلوی علماء جاڑ کی نظر میں، ص ۲۲۲
- ۱۵۔ ایضاً: ص ۱۵۱ تا ۱۷۱
- ۱۶۔ محمد عبدالحکیم شرف قادری، مولانا: یاد اعلیٰ حضرت، ص ۵۰
- ۱۷۔ محمد عبدالحکیم شرف قادری، مولانا: سراج الفقہاء مطبوعہ لاہور، ص ۳۳
- ۱۸۔ رشید احمد گنگوہی، مولوی: فتاویٰ رشیدیہ کامل بہبوب، مطبوعہ مطبع سعیدی کراچی ص ۳۱۸
- ۱۹۔ محمد سعید احمد، پروفیسر: فاضل بریلوی علماء جاڑ کی نظر میں، ص ۱۷۱
- ۲۰۔ حامد رضا خاں، مولانا: الاجازات المتنیہ مشمولہ رسائل رضویہ، جلد دوم، مطبوعہ لاہور ص ۲۵۸
- ۲۱۔ احمد رضا خاں، مجدد، کفل الفقیہ الفائم، مطبوعہ مکتبہ عالم پریس لاہور، ص ۱۷۷-۱۷۸
- ۲۲۔ ظفر الدین بخاری، مولانا: حیات اعلیٰ حضرت، ص ۱۷۷
- ۲۳۔ محمد سعید احمد، پروفیسر: فاضل بریلوی اور ترک موالات، ص ۱۸
- ۲۴۔ بدرالدین احمد، مولانا: سوانح اعلیٰ حضرت، مطبوعہ لکھنؤ، ص ۱۹۸-۱۹۹
- ۲۵۔ ظفر الدین بخاری، مولانا: حیات اعلیٰ حضرت، ص ۱۷۱
- ۲۶۔ محبوب علی خاں، مولانا: حدائق بخشش حصہ سوم، ص ۹۵
- ۲۷۔ محبوب علی خاں مفتی: حدائق بخشش: حصہ سوم، ص ۹۸
- ۲۸۔ ایضاً: ص ۹۸
- ۲۹۔ ایضاً: ص ۹۸

- ۳۰۔ محبوب علی خل، مولانا: حدائق بخشش، حصہ سوم، ص ۴۰۰
- ۳۱۔ ظفرالدین بماری، مولانا: حیات اعلیٰ حضرت، ص ۲۷۴
- ۳۲۔ محبوب علی خل، مولانا: حدائق بخشش، حصہ سوم، ص ۹۶
- ۳۳۔ محبوب علی خل، مفتی: حدائق بخشش، حصہ سوم، ص ۱۰۰-۱۰۱
- ۳۴۔ ظفرالدین بماری، مولانا: حیات اعلیٰ حضرت، ص ۴۳۳
- ۳۵۔ حسن رضا خال، مولانا: ذوق نعمت، مطبوعہ لاہور، ص ۱۳۲، ۱۳۵
- ۳۶۔ محبوب علی خل، مفتی: حدائق بخشش، حصہ سوم، ص ۱۰۳
- ۳۷۔ ظفرالدین بماری، مولانا: حیات اعلیٰ حضرت، جلد اول، ص ۵۲-۵۶
- ۳۸۔ محبوب علی خل، مولانا: حدائق بخشش، حصہ سوم، ص ۱۰۲
- ۳۹۔ ظفرالدین بماری، حیات اعلیٰ حضرت، جلد اول، مطبوعہ کراچی، ص ۴۳۶
- ۴۰۔ ظفرالدین بماری، مولانا: حیات اعلیٰ حضرت جلد اول ص ۷۳۷
- ۴۱۔ خلام معین الدین، مفتی: حیات صدر الافاضل، مطبوعہ لاہور، ص ۱۷۶
- ۴۲۔ ظفرالدین بماری، مولانا: حیات اعلیٰ حضرت جلد اول ص ۱۳۲، ۱۳۳
- ۴۳۔ ایضاً: ص ۳۰۳
- ۴۴۔ قاضی فضل احمد، مولانا: انور آفتاب صداقت، جلد اول، ص ۳۰۳، ۳۰۵
- ۴۵۔ ایضاً: ص ۳۰۶
- ۴۶۔ حسین رضا خال، مولانا: وصایا شریف مطبوعہ لاہور، ص ۲۱
- ۴۷۔ پ ۳ سورۃ آل عمران، آیت ۳۸۔ احمد رضا خل، مجدد: فتاویٰ رضویہ، جلد ...

# النحوه الشهابيه

جس میں دیوبندی تراجم کی اغلاط کی

شاندھی کی گئی ہے -

علماء کرام کی تصدیقات کے ساتھ



غوئیہ بک ڈپو مرید کے

ملنے کے پتے

☆ مکتبہ حامدیہ سجن خش روڈ لاہور

☆ ضیاء القرآن سجن خش روڈ لاہور

☆ مسلم کتابی سجن خش روڈ لاہور

☆ حجاز پبلی کیشنز دربار مارکیٹ لاہور

# شرح قتوح الغیب

شرح

حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ

مترجم

مفتی ظہور احمد جلالی

ناشر

غوثیہ بک ڈپ مرید کے

ملنے کے پتے

☆ مکتبہ حامدیہ حجت علیش روڈ لاہور

☆ ضیاء القرآن حجت علیش روڈ لاہور

☆ مسلم کتابوی حجت علیش روڈ لاہور

☆ حجاز پبلی کیشنز دربار مارکیٹ لاہور

<https://ataunnabi.blogspot.com/>

<http://t.me/Tehqiqat>

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اہل محبت کیلئے ایک عظیم خوشخبری

شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

کی معرکہ آموز کتاب



شیخ عبد الحق محدث دہلویؒ کا

اردو شرح چھپ کر منظر عام پر آچکا ہے

برائے رابطہ

مکتبہ حامدیہ سجخ مخش روڈ لاہور ذن نمبر 7232359

ضیاء القرآن سجخ مخش روڈ لاہور

حجاز پبلی کیشنر ستا ہوٹل دربار مار کیٹ لاہور

مسلم کتابوی دربار مار کیٹ لاہور

مکتبہ رضوان سجخ مخش روڈ لاہور ذن نمبر 7115761

اہل محبت کیلئے ایک عظیم خوشخبری

شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

کی معرکہ آموز کتاب



شیخ عبد الحق محدث دہلویؒ کا

اردو شرح چھپ کر منظر عام پر آچکا ہے

برائے رابطہ

مکتبہ حامدیہ سجخ مخش روڈ لاہور ذن نمبر 7232359

ضیاء القرآن سجخ مخش روڈ لاہور

حجاز پبلی کیشنر ستا ہوٹل دربار مار کیٹ لاہور

مسلم کتابوی دربار مار کیٹ لاہور

مکتبہ رضوان سجخ مخش روڈ لاہور ذن نمبر 7115761